

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ

فَمَنْ	أَظْلَمُ	مِمَّنْ	كَذَبَ	عَلَى	اللَّهِ	وَكَذَّبَ	بِالْحَقِّ	إِذْ	جَاءَهُ
پس کون	بڑا ظالم	سے	جھوٹ باندھا	پر	اللہ	اور اس نے جھٹلایا	سچائی کو	جب	وہ کے پاس آئی

پس اس سے بڑا ظالم کون؟ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلایا، جب وہ اس کے پاس آئی

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۗ وَالَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ بِهِ

أَلَيْسَ	فِي	جَهَنَّمَ	مَثْوًى	لِّلْكَافِرِينَ	وَالَّذِي	جَاءَ	بِالْحَقِّ	وَصَدَّقَ	بِهِ
کیا نہیں	جہنم میں	ٹھکانا	کافروں کے لئے	اور جو شخص	آیا	سچائی کے ساتھ	اور اس کی تصدیق کی	اس کو	یہ

کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں؟ اور جو شخص سچائی کے ساتھ آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاؤُ

أُولَٰئِكَ	هُمُ	الْمُتَّقُونَ	لَهُمْ	مَا يَشَاءُونَ	عِنْدَ	رَبِّهِمْ	ذَٰلِكَ	جَزَاؤُ
یہی لوگ	وہ	متقی	ان کے لئے	جو وہ چاہیں گے	ہاں۔ پاس	ان کا رب	یہ	جزا

یہی لوگ متقی (پرہیزگار) ہیں۔ ان کیلئے ہے ان کے رب کے ہاں جو بھی، وہ چاہیں گے، یہ جزا ہے

الْمُحْسِنِينَ ۗ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ

الْمُحْسِنِينَ	لِيُكَفِّرَ	اللَّهُ	عَنْهُمْ	أَسْوَأَ	الَّذِي	عَمِلُوا	وَيَجْزِيَهُمْ	أَجْرَهُمْ
رہج، نیکو کاروں	تاکہ دُور کر دے	اللہ	ان سے	بُرائی	وہ جو	انہوں نے کئے (اعمال)	اور انہیں جزا دے	ان کا اجر

نیکو کاروں کی۔ تاکہ اللہ ان سے ان کے اعمال کی بُرائی دُور کر دے اور انہیں اُن کے کاموں کا اجر دے

يَا حَسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۗ وَيَخَوِّفُونَكَ

يَا حَسَنَ	الَّذِي	كَانُوا	يَعْمَلُونَ	أَلَيْسَ	اللَّهُ	بِكَافٍ	عَبْدًا	وَيَخَوِّفُونَكَ
بہترین (اعمال)	وہ جو	وہ کرتے تھے	کیا نہیں	اللہ	کافی	اپنے بندے کو	اور وہ خوف دلاتے ہیں آپ کو	

ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں

بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ

بِالَّذِينَ	مِنْ	دُونِهِ	وَمَنْ	يُضِلِلْ	اللَّهُ	فَمَا لَهُ	مِنْ	هَادٍ	وَمَنْ	يَهْدِ	اللَّهُ
ان سے جو	اس کے سوا	اور جس	گمراہ کر دے	اللہ	تو نہیں اسکے لئے	کوئی	ہدایت دینے والا	اور جس	اللہ	ہدایت دے	

اُن (جھوٹے معبودوں) سے جو اس کے سوا ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے

اللہ کا عجز

فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

فَمَا لَهُ	مِنْ	مُضِلٍّ	أَلَيْسَ	اللَّهُ	بِعَزِيزٍ	ذِي	انْتِقَامٍ	وَلَئِنْ	سَأَلْتَهُمْ
تو نہیں	اس کے لئے	کوئی	گمراہ کرنے والا	کیا نہیں	اللہ	غالب	بدلہ لینے والا	اور اگر	تم پوچھو ان سے

تو اسی کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ غالب، بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں

مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مَنْ

مَنْ	خَلَقَ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضَ	لَيَقُولَنَّ	اللَّهُ	قُلْ	أَفَرَأَيْتُمْ	مَا تَدْعُونَ	مَنْ
کون	کس	پیدا کیا	آسمانوں	اور زمین	تو وہ ضرور کہیں گے	اللہ	فرمادیں	کیا پس دیکھا تم نے	جن کو تم پکارتے ہو

آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے "اللہ نے" آپ فرمادیں پس کیا تم نے دیکھا (دیکھو تو) تم جن کو پکارتے ہو

دُونَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ

دُونَ	اللَّهِ	إِنْ	أَرَادَنِيَ	اللَّهُ	بِضُرٍّ	هَلْ	هُنَّ	كَاشِفَاتُ	ضُرِّهِ	أَوْ	أَرَادَنِي	بِرَحْمَةٍ
اللہ کے سوائے	اگر	چاہے میرے لئے	اللہ	کوئی ضرر	کیا	وہ سب	دور کر دیں گی	اس کا ضرر	یا	وہ چاہے میرے لئے	کوئی رحمت	

اللہ کے سوا اگر اللہ میرے لئے کوئی ضرر چاہے تو کیا وہ سب اس کا ضرر دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ میرے لئے کوئی رحمت چاہے

هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۳۸﴾

هَلْ	هُنَّ	مُمْسِكَتُ	رَحْمَتِهِ	قُلْ	حَسْبِيَ	اللَّهُ	عَلَيْهِ	يَتَوَكَّلُ	الْمُتَوَكِّلُونَ
کیا	وہ سب	روکنے والی ہیں	اس کی رحمت	فرمادیں	کافی ہے میرے لئے	اللہ	اس پر	بھروسہ کرتے ہیں	بھروسہ کرنے والے

کیا وہ سب اس کی رحمت روک سکتے ہیں؟ آپ فرمادیں میرے لئے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ مَنْ يَأْتِيهِ

قُلْ	يَقَوْمِ	اعْمَلُوا	عَلَىٰ	مَكَانَتِكُمْ	إِنِّي	عَامِلٌ	فَسَوْفَ	تَعْلَمُونَ	مَنْ	يَأْتِيهِ
فرمادیں	اے میری قوم	تم کام کئے جاؤ	پر	اپنی جگہ	بیشک میں	کام کرتا ہوں	پس عنقریب	تم جان لو گے	کون	آتا ہے اسی پر

آپ فرمادیں، اے میری قوم! تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ بیشک میں اپنا کام کرتا ہوں، پس عنقریب تم جان لو گے کون ہے؟ جس پر آتا ہے

عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۴۰﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ

عَذَابٌ	يُخْزِيهِ	وَيَحِلُّ	عَلَيْهِ	عَذَابٌ	مُقِيمٌ	إِنَّا	أَنْزَلْنَا	عَلَيْكَ	الْكِتَابَ	لِلنَّاسِ
عذاب	رسوا کرنے والا	اس کو	اور اترتا ہے	اس پر	عذاب	دائمی	بیشک ہم نے نازل کی	آپ پر	کتاب	لوگوں کے لئے

عذاب جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے؟ جس پر دائمی عذاب اترتا ہے؟ بیشک ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت، کے لئے کتاب نازل کی

بِالْحَقِّ فَمِنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنْتَ

بِالْحَقِّ فَمِنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنْتَ  
حق کے ساتھ پس جس ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لئے اور جو گمراہ ہوا تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے لئے گمراہ ہوتا ہے اور آپ نے

حق کے ساتھ پس جس ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لئے اور جو گمراہ ہوا تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے لئے گمراہ ہوتا ہے اور آپ نے

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۗ ۝۳۱ ۚ اللَّهُ يَتَوَقَّىٰ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۗ ۝۳۱ ۚ اللَّهُ يَتَوَقَّىٰ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ  
ان پر نگہبان اللہ قبض کرتا ہے (جمع) جان روح وقت اس کی موت اور جو نہ مرے

ان پر نگہبان (ذمہ دار) - اللہ روح کو اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جو نہ مرے

فِي مَنَامِهَا ۗ فَيُسَبِّحُكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ

فِي مَنَامِهَا ۗ فَيُسَبِّحُكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ  
میں اپنی نیند میں تو روک لیتا ہے وہ جس فیصلہ کیا اس پر موت وہ چھوڑ دیتا ہے دوسروں کو تک

اپنی نیند میں تو جس کی موت کا فیصلہ کیا تو اس کو (نیند کی صورت میں ہی) روک لیتا ہے اور دوسری (روحوں کو) چھوڑ دیتا ہے

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۗ ۝۳۲ ۚ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۗ ۝۳۲ ۚ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ  
ایک مقررہ وقت تک بیشک اس میں البتہ نشانیاں لوگوں کے لئے غور و فکر کرتے ہیں کیا انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا

ایک مقررہ وقت تک بیشک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا بنا لئے ہیں

شَفَاعَةً ۚ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَسْئَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۗ ۝۳۳ ۚ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ

شَفَاعَةً ۚ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَسْئَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۗ ۝۳۳ ۚ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ  
شفاعت کرنے والے افراد یا اگر وہ نہ اختیار رکھتے ہوں کچھ اور نہ وہ سمجھ لکھتے ہوں افراد میں اللہ کی شفاعت

شفاعت رسفا رش کرنے والے آپ افراد (اس صورت میں بھی) کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھ لکھتے ہوں؛ آپ افراد میں اللہ ہی کا اختیار ہے

جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۗ ۝۳۴ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ

جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۗ ۝۳۴ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ  
تمام اسی کے لئے بادشاہت آسمانوں اور زمین پھر اس کی طرف تم لوٹو گے اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ

تمام شفاعت، اسی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؛ پھر اس کی طرف تم لوٹو گے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ

وَحَدَاكُمُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

وَحَدَاكُمُ	اشْمَأَزَّتْ	قُلُوبُ	الَّذِينَ	لَا يُؤْمِنُونَ	بِالْآخِرَةِ	وَإِذَا	ذُكِرَ	الَّذِينَ	مِنْ دُونِهِ
ایک-واحد	منتفر ہو جاتے ہیں	دل	وہ لوگ جو	ایمان نہیں رکھتے	آخرت پر	اور جب	ذکر کیا جاتا ہے	ان کا جو	اس کے سوا

واحد کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منتفر ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے سوا ہیں (یعنی اوروں کا)

إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۵﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ

إِذَا هُمْ	يَسْتَبْشِرُونَ	قُلِ	اللَّهُمَّ	فَاطِرَ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	عَلِمَ	الْغَيْبِ
تو فوراً	خوش ہو جاتے ہیں	اے اللہ	پیدا کرنے والا	آسمانوں	اور زمین	اور جاننے والا	پوشیدہ	

تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں - آپ فرمادیں اے اللہ! پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، جاننے والے پوشیدہ

وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۶﴾ وَكُو

وَالشَّهَادَةِ	أَنْتَ	تَحْكُمُ	بَيْنَ	عِبَادِكَ	فِي مَا	كَانُوا	فِيهِ	يَخْتَلِفُونَ	وَكَو
اور ظاہر	تو	توفیق دے گا	درمیان	اپنے بندوں	اس میں جو	وہ تھے	اس میں	اختلاف کرتے	اور اگر

اور ظاہر کے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس امر میں فیصلہ کرے گا، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے - اور اگر

أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَا بِهِ مِنْ سُوءِ

أَنَّ	لِلَّذِينَ	ظَلَمُوا	مَا فِي	الْأَرْضِ	جَمِيعًا	وَمِثْلَهُ	مَعَهُ	لَافْتَدَا	بِهِ	مِنْ سُوءِ
ہو	ان کے لئے جنہوں نے	ظلم کیا	اور جو کچھ زمین میں	سب کا سب	اور اتنا ہی	اسکے ساتھ	بدلہ میں دیں وہ اس کو	سے برے		

جن لوگوں نے کفر و شرک کر کے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، ان کے پاس ہو تو وہ بدلے میں سے دیں

الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۳۷﴾

الْعَذَابِ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	وَبَدَّ	اللَّهُ	مِنْ اللَّهِ	مَا لَمْ	يَكُونُوا	يَحْتَسِبُونَ
عذاب	روزِ قیامت	اور ظاہر ہو جائیگا	پر اللہ کی طرف سے	جو	نہ تھے وہ	گمان کرتے	

روزِ قیامت برے عذاب سے (چھڑانے کے لئے) اور اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان (بھی) نہ کرتے تھے -

وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾

وَبَدَّ	اللَّهُ	سَيِّئَاتُ	مَا كَسَبُوا	وَحَاقَ	بِهِمْ	مَا كَانُوا	بِهِ	يَسْتَهْزِءُونَ
اور ظاہر ہو جائیں	ان پر	برے کام	جو وہ کرتے تھے	اور گھیرنے کا	ان کو جو	وہ تھے	اس کا	مذاق اڑاتے

اور ان پر برے کام ظاہر ہو جائیں جو وہ کرتے تھے اور وہ (عذاب) ان کو گھیر لے گا، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے -

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَاثِرًا ثُمَّ اِذَا خَوَّلَتْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَاثِرًا ثُمَّ اِذَا خَوَّلَتْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ  
پھر جب پہنچتی ہے انسان کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسکو ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو مجھے دی گئی ہے

پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسکو ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو مجھے دیا گیا ہے

عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ

عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ  
پر علم بلکہ یہ ایک آزمائش اور لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں یقیناً یہ کہا تھا جو لوگ

دیہرے، علم رکھنے والے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں - یقیناً یہ ان لوگوں نے کہی، کہا تھا جو

مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۴۰﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ

مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ  
سے ان سے پہلے تو وہ نہ دور کیا ان سے جو وہ کرتے تھے پس انہیں پہنچیں برائیاں

ان سے پہلے تھے تو جو وہ کرتے تھے اس نے ان سے (عذاب کو) دور نہ کیا - پس انہیں پہنچیں (اُن پر آ پڑیں) برائیاں

مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا وَمَا هُمْ

مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا وَمَا هُمْ  
جو انہوں نے کمائی اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان میں سے جلد پہنچیں گی انہیں برائیاں جو انہوں نے کمایا اور وہ نہیں

جو انہوں نے کمائی اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں پہنچیں گی ان پر آ پڑیں گی برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں، اور وہ نہیں ہیں

بِعَجْرِيْنَ ﴿۴۱﴾ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ

بِعَجْرِيْنَ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ  
عاجز کرنے والے یا وہ نہیں جانتے کہ اللہ فراخ کرنا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے

(اللہ کو) عاجز کرنے والے - کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے (اور وہ جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے)

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۴۲﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا  
بیشک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ان لوگوں کے لئے وہ ایمان لائے فرمادیں اے میرے بندو! جنہوں نے زیادتی کی

بیشک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لائے - آپ فرمادیں، اے میرے بندو! جنہوں نے زیادتی کی ہے

عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ

عَلَىٰ	أَنفُسِهِمْ	لَا تَقْنَطُوا	مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ	إِنَّ اللَّهَ	يَغْفِرُ	الذُّنُوبَ	جَمِيعًا
پر	اپنی جانیں	میلوس نہ ہو تم	سے	اللہ کی رحمت	بیشک اللہ	بخشت دیتا ہے	گناہ (جمع) سب

اپنی جانوں پر، تم اللہ کی رحمت سے میلوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے،

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵۳﴾ وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ

إِنَّهُ	هُوَ	الْغَفُورُ	الرَّحِيمُ	وَأَيُّبُوا	إِلَىٰ	رَبِّكُمْ	وَأَسْلِمُوا لَهُ	مِنْ قَبْلِ
بیشک وہ	وہی	بخشنے والا	مہربان	اور رجوع کرو	طرف	اپنا رب	اور فرمانبردار ہو جاؤ اسکے	اس سے قبل

بے شک وہی بخشنے والا، مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ، اس سے قبل

أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿۵۴﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

أَنْ	يَأْتِيَكُمُ	الْعَذَابُ	ثُمَّ	لَا تُنصِرُونَ	وَاتَّبِعُوا	أَحْسَنَ	مَا أُنزِلَ	إِلَيْكُمْ
کہ	تم پر آئے	عذاب	پھر	تم مدد نہ کئے جاؤ گے	اور پیروی کرو	سب سے بہتر	جو نازل کی گئی	تمہاری طرف

کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہ کئے جاؤ گے۔ اور پیروی کرو سب سے بہتر (کتاب کی) جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے

مِّنْ رَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ۖ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۵﴾

مِّنْ	رَبِّكُمْ	مِّن قَبْلِ	أَنْ يَأْتِيَكُمُ	الْعَذَابُ	بَغْتَةً	وَأَنْتُمْ	لَا تَشْعُرُونَ
سے	تمہارا رب	اس سے قبل	کہ تم پر آئے	عذاب	اچانک	اور تم	تم کو شعور نہ ہو

تمہارے رب کی طرف سے، اس سے قبل کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

إِنَّ تَقَوْلَ نَفْسٍ يُحَسِّرُنِي عَلَىٰ مَا فَرَّقْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ

إِنَّ تَقَوْلَ	نَفْسٍ	يُحَسِّرُنِي	عَلَىٰ	مَا فَرَّقْتُ	فِي	جَنبِ اللَّهِ	وَإِنْ كُنْتُ
کہ کہے	کوئی شخص	ہائے افسوس	اس پر	جو میں کو تاہی کی	میں	اللہ کا حق	اور اور یہ کہ میں

کہ کوئی شخص کہے، ہائے افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کو تاہی کی اور یہ کہ میں

لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿۵۶﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۷﴾

لَمِنَ	السَّخِرِينَ	أَوْ تَقُولَ	لَوْ أَنَّ اللَّهَ	هَدَانِي	لَكُنْتُ	مِنَ	الْمُتَّقِينَ
البتہ سے	ہنسی اڑانے والے	یا وہ کہے	اگر یہ کہ اللہ	مجھے ہدایت دیتا	میں ضرور ہوتا	سے	پس بہتر گزار (جمع)

ہنسی اڑانے والوں میں سے رہا۔ یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور بہتر گزاروں میں سے ہوتا۔

أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾

أَوْ تَقُولُ	حِينَ	تَرَى	الْعَذَابَ	لَوْ أَنَّ	لِي	كَرَّةً	فَأَكُونَ	مِنَ	الْمُحْسِنِينَ
یا وہ کہے	جب	تو دیکھے	عذاب	کاش اگر	میرے لئے	دوبارہ	تو میں ہو جاؤں	سے	نیکو کار (جمع)

یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش! اگر میرے لئے دوبارہ (دینا میں جانا ہو) تو میں نیکو کاروں میں سے ہو جاؤں۔

بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۵۹﴾

بَلَىٰ	قَدْ جَاءَ	تِلْكَ	آيَاتِي	فَكَذَّبْتَ	بِهَا	وَاسْتَكْبَرْتَ	وَكُنْتَ	مِنَ	الْكٰفِرِينَ
ہاں	تحقیق تیرے پاس آئی	میری آیات	تو تو نے جھٹلایا	انہیں	اور تو نے تکبر کیا	اور تو تھا	سے	کافروں	

اللہ فرمائے گا، ہاں! تحقیق تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے انہیں جھٹلایا، اور تو نے تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ	تَرَى	الَّذِينَ كَذَبُوا	عَلَىٰ	اللَّهِ	وُجُوهُهُم	مُّسْوَدَّةٌ	أَلَيْسَ
اور قیامت کے دن	تم دیکھو گے	جن لوگوں نے جھوٹ بولا	اللہ پر	ان کے چہرے	سیاہ	کیا نہیں	

اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۶۰﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ

فِي	جَهَنَّمَ	مَثْوًى	لِّلْمُتَكَبِّرِينَ	وَيُنَجِّي	اللَّهُ	الَّذِينَ اتَّقَوْا	بِمَفَازَتِهِمْ
میں	جہنم	ٹھکانا	تکبر کرنے والے	اور نجات دے گا	اللہ	وہ جنہوں نے پرہیزگاری کی	ان کی کامیابی کے ساتھ

تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی اللہ انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا،

لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۱﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

لَا يَمَسُّهُمُ	السُّوءُ	وَلَا هُمْ	يَحْزَنُونَ	اللَّهُ	خَالِقُ	كُلِّ شَيْءٍ	وَهُوَ عَلَىٰ	كُلِّ
نہ چھوئے گی انہیں	برائی	اور نہ وہ	غمگین ہوں گے	اللہ	پیدا کرنے والا	ہر شے	اور وہ	پر

نہ انہیں کوئی برائی چھوئے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہر

شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۶۲﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ

شَيْءٍ	وَكِيلٌ	لَهُ	مَقَالِيدُ	السَّمٰوٰتِ	وَالْاَرْضِ	وَالَّذِينَ كَفَرُوا	بِآيٰتِ اللّٰهِ
شے	نگہبان	اسکے پاس	کنجیاں	آسمانوں	اور زمین	انکو جو لوگ	اللہ کی آیات کے

شے پر نگہبان ہے۔ اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے منکر ہوئے

أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۶۳﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَمْرُؤُنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿۶۴﴾

أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَمْرُؤُنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

وہی لوگ وہ خسارہ پانے والے فرمادیں تو کیا اللہ کے سوا تم مجھے کہتے ہو میں پرستش کروں اسے جاہلو (جج)

وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ فرمادیں اسے جاہلو! تو کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا (کسی اور) کی پرستش کروں۔

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

اور یقیناً وحی بھی گئی ہے آپ کی طرف اور طرف وہ جو کہ آپ سے پہلے البتہ اگر تو نے شرک کیا البتہ اکارت جائیں گے تیرے عمل

اور یقیناً آپ کی طرف اور آپ کے پہلوں کی طرف وحی بھی گئی ہے اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل بالکل اکارت جائیں گے

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿۶۵﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۶۶﴾

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

اور تو ہو گا خسارہ سے خسارہ پانے والے بلکہ اللہ ہیں عبادت کرو اور ہو سے شکر گزاروں

اور تم ضرور خسارہ پانے والوں (زیاں کاروں) میں ہو گے۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور شکر گزاروں میں سے ہو۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور انہوں نے اللہ کی قدرشائی نہ کی اللہ حق حق قدرہ اس کی قدرشائی اور زمین تمام اس کی مٹھی روز قیامت

اور انہوں نے اللہ کی قدرشائی نہ کی جیسا کہ اس کی قدرشائی کا حق تھا، اور تمام زمین روز قیامت اس کی مٹھی میں ہو گی،

وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌ بِيَمِيْنِهِ ۗ وَسُبْحٰنَهُ ۗ وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۷﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ

وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌ بِيَمِيْنِهِ ۗ وَسُبْحٰنَهُ ۗ وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ

اور تمام آسمان لپٹے ہوئے اسکے دائیں ہاتھ میں وہ پاک ہے اور برتر اس جو وہ شریک کرنے ہیں اور پھونک دی جائے گی صور میں

اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ اس سے پاک اور برتر ہے جو وہ شریک کرتے ہیں اور صور میں پھونک دی جائیگی

فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ

فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ

تو بہوش ہو جائے گا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں سوائے جسے اللہ چاہے پھر پھونک دی جائیگی اس میں

تو (ہر کوئی) جو آسمانوں اور زمین میں ہے بہوش ہو جائے گا، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر اس میں پھونک دی جائے گی،



أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ

أُخْرَىٰ	فَإِذَا	هُم	قِيَامٌ	يَنْظُرُونَ	وَأَشْرَقَتِ	الْأَرْضُ	بِنُورِ	رَبِّهَا	وَوُضِعَ	الْكِتَابُ
دوبارہ	تو فوراً	وہ	کھڑے	دیکھنے لگیں گے	اور چمک اٹھی گی	زمین	اپنے رب کے نور سے	اور رکھی جائیگی	کتاب	

دوبارہ، تو وہ فوراً کھڑے ہو کر (ادھر ادھر) دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی گی اور اعمال کی کتاب رکھ لی جائیگی

وَجَاءَ عِبَاقُ الْبَيْتِ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

وَجَاءَ	عِبَاقُ	الْبَيْتِ	وَالشُّهَدَاءُ	وَقُضِيَ	بَيْنَهُم	بِالْحَقِّ	وَهُمْ	لَا يُظْلَمُونَ
اور لائے	جائیں گے	نبی (جمع)	اور گواہ (جمع)	اور فیصلہ کیا جائیگا	انکے درمیان	حق کے ساتھ	اور وہ ان پر	ظلم نہ کیا جائے گا

اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ (ٹھیک ٹھیک) فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ

وَوُفِّيَتْ	كُلُّ	نَفْسٍ	مَّا	عَمِلَتْ	وَهُوَ	أَعْلَمُ	بِمَا	يَفْعَلُونَ	وَسِيقَ	الَّذِينَ
اور پورا پورا دیا جائے گا	ہر شخص	جو اس کی	اداسکے اعمال،	اور وہ	خوب جانتا ہے	جو کچھ وہ کرتے ہیں	اور لائے جائیں گے	وہ جنہوں نے		

اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور کافر لائے جائیں گے

كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَهَاتَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ

كَفَرُوا	إِلَىٰ	جَهَنَّمَ	زُمَرًا	حَتَّىٰ	إِذَا	جَاءُوهَا	وَهَاتَتْ	أَبْوَابُهَا	وَقَالَ	لَهُمْ
کفر کیا کافراں	طرف	جہنم	گروہ درگروہ	یہاں تک کہ جب	وہ آئیں گے وہاں	کھول دیئے جائیں گے	اسکے دروازے	اور کہیں گے	ان سے	

گروہ درگروہ جہنم کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور ان سے کہیں گے

خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ

خَزَنَتُهَا	أَلَمْ	يَأْتِكُمْ	رُسُلٌ	مِّنكُمْ	يَتْلُونَ	عَلَيْكُمْ	آيَاتِ	رَبِّكُمْ	وَيُنذِرُونَكُمْ
اس کے مخزن	کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس	رسول (جمع)	تم میں سے	وہ پڑھتے تھے	تم پر	تمہارے رب کی آیتیں (حکام)	اور تمہیں ڈراتے تھے		

اس کے مخزن (دراغہ) کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تم پر تمہارے رب کے احکام پڑھتے تھے، اور تمہیں ڈراتے تھے

لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

لِقَاءِ	يَوْمِكُمْ	هَذَا	قَالُوا	بَلَىٰ	وَلَكِنْ	حَقَّتْ	كَلِمَةُ	الْعَذَابِ	عَلَى	الْكَافِرِينَ
ملاقات	تمہارا دن	یہ	وہ کہیں گے	ہاں	اور لیکن	پورا ہو گیا	حکم	عذاب	پر	کافروں

اس دن کی ملاقات سے۔ وہ کہیں گے "ہاں" لیکن کافروں پر عذاب کا حکم پورا ہو گیا۔

قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤١﴾

قِيلَ	ادْخُلُوا	ابْوَابَ	جَهَنَّمَ	خَالِدِينَ	فِيهَا	فَبِئْسَ	مَثْوًى	الْمُتَكَبِّرِينَ
کہا جائے گا	تم داخل ہو	دروازے	جہنم	ہمیشہ رہنے کو	اس میں	سو برا ہے	ٹھکانا	تکبر کرنے والے

کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، اس میں ہمیشہ رہنے کو، سو برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا۔

وَسَيُقَالُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ

وَسَيُقَالُ	لِلَّذِينَ	اتَّقَوْا	رَبَّهُمْ	إِلَى الْجَنَّةِ	زُمَرًا	حَتَّىٰ	إِذَا	جَاءُوهَا	وَفُتِحَتْ
ہانکا لیا جائے گا	وہ لوگ جو	وہ ڈرے	اپنا رب	جنت کی طرف	گروہ درگروہ	یہاں تک کہ	جب	وہ وہاں آئیں گے	اور کھول دیے جائیں گے

اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے انہیں جنت کی طرف گروہ درگروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے اور کھول دیئے جائیں گے

أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٤٢﴾

أَبْوَابُهَا	وَقَالَ	لَهُمْ	خَزَنَتُهَا	سَلَامٌ	عَلَيْكُمْ	طِبْتُمْ	فَادْخُلُوهَا	خَالِدِينَ
اس کے دروازے	اور کہیں گے	ان سے	اس کے محافظ	سلام	تم پر	تم اچھے رہے	سو اس میں داخل ہو	ہمیشہ رہنے کو

اس کے دروازے اور ان سے اس کے محافظ (داروغہ) کہیں گے تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، سو اس میں ہمیشہ رہنے کو داخل ہو۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَاةَ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ

وَقَالُوا	الْحَمْدُ	لِلَّهِ	الَّذِي	صَدَقْنَا	وَعَدَاةَ	وَأَوْرَثْنَا	الْأَرْضَ	نَتَّبِعُ
اور وہ کہیں گے	تمام تعریفیں	اللہ کے لئے	وہ جس نے	ہم سے سچا کیا	اپنا وعدہ	اور ہمیں وارث بنایا	زمین	ہم مقام کر لیں

اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لئے، میں، جس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں (اس) زمین کا وارث بنایا کہ ہم مقام کر لیں

مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٤٣﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ

مِنَ	الْجَنَّةِ	حَيْثُ	نَشَاءُ	فَنِعْمَ	أَجْرُ	الْعَمَلِينَ	وَتَرَى	الْمَلَائِكَةَ	حَافِينَ
سے۔	جنت	جہاں	ہم چاہیں	سو کیا ہی اچھا	اجر	عمل کرنے والے	اور آپ دیکھیں گے	فرشتے	حلقہ باندھے

جنت میں جہاں ہم چاہیں، سو کیا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے حلقہ باندھے

مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ

مِنْ	حَوْلِ	الْعَرْشِ	يُسَبِّحُونَ	بِحَمْدِ	رَبِّهِمْ	وَقُضِيَ	بَيْنَهُمْ	بِالْحَقِّ
سے	عرش کے گرد	پاکیزگی بیان کرتے ہوئے	تعلیف کے ساتھ	اپنا رب	اور فیصلہ کر دیا جائیگا	ان کے درمیان	حق کے ساتھ	

عرش کے گرد، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہوئے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ (ٹھیک ٹھیک) فیصلہ کر دیا جائے گا

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لئے پروردگار سارے جہان (جمع)

اور کہا جائے گا تمام تعریفیں سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کے لئے ہیں۔

رُكُوعَاتُهَا ۹

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ = ۶۰

آيَاتُهَا ۸۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا، مہربان ہے

حَمَّ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ② غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

حَمَّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

حامیم اتارا جانا کتاب (قرآن) اللہ سے غالب ہر چیز کا جاننے والا بخشنے والا گناہ (جمع) اور قبول کرنے والا توبہ

حامیم - اس قرآن کا اتارا جانا اللہ غالب ہر چیز کے جاننے والے (کی طرف) سے ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا

شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ③ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ④ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ⑤ مَا يَجَادِلُ

شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ مَا يَجَادِلُ

شدید عذاب والا بڑے فضل والا نہیں کوئی معبود اس کے سوا اس کی طرف لوٹ کر جانا وہ نہیں جھگڑتے

شدید عذاب والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے - نہیں جھگڑتے

فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرَدُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ⑥

فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرَدُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو تمہیں دھوکہ میں ڈال رہے ان کا چلنا پھرنا شہروں میں

اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو تمہیں ان کا شہروں میں (آرام میں سے) چلنا پھرنا دھوکہ کے میں نہ ڈال دے۔

كَذَّابَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

كَذَّابَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

جھٹلایا ان سے قبل نوح کی قوم اور ان کے بعد (دوسرے) گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے متعلق ارادہ یا نہا

ان سے قبل نوح کی قوم اور ان کے بعد (دوسرے) گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے متعلق ارادہ یا نہا

لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ

لِيَأْخُذُوهُ	وَجَدَلُوا	بِالْبَاطِلِ	لِيُدْحِضُوا	بِهِ	الْحَقَّ	فَأَخَذْتَهُمْ	فَكَيْفَ	كَانَ
کہ وہ اسے پکڑ لیں	اور جھگڑا کریں	ناحق	تاکہ ناجائز کو یہاں	اس سے	حق	تو میں نے انہیں پکڑ لیا	سوکسیا	ہوا

کہ وہ اسے پکڑ لیں، اور ناحق جھگڑا کریں تاکہ اس سے حق کو دبا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، سو (دیکھو) کیسا ہوا

عِقَابٍ ۵ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ

عِقَابٍ	وَكَذَلِكَ	حَقَّتْ	كَلِمَتُ	رَبِّكَ	عَلَى	الَّذِينَ	كَفَرُوا	أَنَّهُمْ
میرا عذاب	اور اسی طرح	ثابت ہو گئی	بات	تمہارا رب کی	پر	جن لوگوں نے کفر کیا	دکافر	کہ وہ

میرا عذاب - اور اسی طرح تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی کہ وہ

أَصْحَابُ النَّارِ ۶ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

أَصْحَابُ	النَّارِ	الَّذِينَ	يَحْمِلُونَ	الْعَرْشَ	وَمَنْ	حَوْلَهُ	يُسَبِّحُونَ	بِحَمْدِ
دوزخ والے	وہ جو فرشتے	اٹھائے ہوئے ہیں	عرش	اور جو اس کے ارد گرد	وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں	تولیف کے ساتھ		

دوزخ والے ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں

رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ

رَبِّهِمْ	وَيُؤْمِنُونَ	بِهِ	وَيَسْتَغْفِرُونَ	لِلَّذِينَ	آمَنُوا	رَبَّنَا	وَسِعْتَ	كُلَّ شَيْءٍ
اپنے رب کی	اور ایمان لاتے ہیں	اس پر	اور مغفرت مانگتے ہیں	ان کے لئے جو	وہ ایمان لائے	اے ہمارا رب	سمولیا ہے	ہر شے

اپنے رب کی، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لئے مغفرت مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہر شے کو سمولیا ہے

رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِرْمَ عَذَابِ الْجَحِيمِ ۷

رَحْمَةً	وَعِلْمًا	فَاغْفِرْ	لِلَّذِينَ	تَابُوا	وَاتَّبَعُوا	سَبِيلَكَ	وَقِرْمَ	عَذَابِ	الْجَحِيمِ
رحمت	اور علم	سو تو بخش دے	وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی	اور انہوں نے پیروی کی	تیرا راستہ	اور تو انہیں پناہ	عذاب	جہنم	

رحمت اور علم نے، سو تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ

رَبَّنَا	وَأَدْخِلْهُمْ	جَنَّاتٍ	عَدْنٍ	الَّتِي	وَعَدْتَهُمْ	وَمَنْ	صَلَحَ	مِنْ	آبَائِهِمْ
اے ہمارے رب	اور انہیں داخل کرنا	بہشتی کے باغات	وہ جن کا	تو نے ان سے وعدہ کیا	اور جو	صالح ہیں	سے	انکے باپ دادا	

اے ہمارے رب! اور انہیں بہشتی کے باغات میں داخل فرما، وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور انکو بھی جو صالح ہیں انکے باپ دادا ہیں سے

وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۸ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ط

وَأَزْوَاجِهِمْ	وَذُرِّيَّتِهِمْ	إِنَّكَ	أَنْتَ	الْعَزِيزُ	الْحَكِيمُ	وَقِهِمُ	السَّيِّئَاتِ
اور ان کی بیویوں	اور ان کی اولاد	بیشک تو	تو ہی	غالب	حکمت والا	اور تو انہیں بچالے	برائیوں

اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بیشک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچالے

وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۹

وَمَنْ تَقِ	السَّيِّئَاتِ	يَوْمَئِذٍ	فَقَدْ رَحِمْتَهُ ط	وَذَلِكَ	هُوَ	الْفَوْزُ	الْعَظِيمُ
اور جو	برائیوں	اس دن	تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا	اور یہ	وہ (بہی)	کامیابی	عظیم

اور جو اس دن برائیوں سے بچا، تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا اور یہی عظیم کامیابی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُنَادُونَ لِمَقَّتِ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ

إِنَّ	الَّذِينَ كَفَرُوا	وَيُنَادُونَ	لِمَقَّتِ اللَّهُ	أَكْبَرُ	مِنْ مَقَّتِكُمْ	أَنْفُسَكُمْ	إِذْ
بیشک	جن لوگوں نے کفر کیا	وہ پکار جائیں گے	البتہ اللہ کا بیزار ہونا	بہت بڑا	سے	تمہارا بیزار ہونا	اپنے میں جب

بیشک جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے (انہیں پکار کر کہا جائیگا کہ اللہ کا بیزار ہونا تمہارے اپنے میں بیزار ہونے سے بہت بڑا ہے، جب

تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝۱۰ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَشْنَتَيْنِ وَآحِيَّتِنَا

تَدْعُونَ	إِلَى الْإِيمَانِ	فَتَكْفُرُونَ	قَالُوا	رَبَّنَا	آمَنَّا	أَشْنَتَيْنِ	وَآحِيَّتِنَا
تم بلائے جاتے تھے	ایمان کی طرف	تو تم کفر کرتے تھے	وہ کہیں گے	اے ہمارے رب	تو نے ہمیں مزہ کھا	دو بار	اور زندگی بخشی ہمیں تو نے

تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تو نے ہمیں مردہ رکھا دو بار، اور ہمیں زندگی بخشی

أَشْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ۝۱۱ ذَلِكُمْ

أَشْنَتَيْنِ	فَأَعْتَرَفْنَا	بِذُنُوبِنَا	فَهَلْ	إِلَى	خُرُوجٍ	مِنْ سَبِيلٍ	ذَلِكُمْ
دو بار	پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا	اپنے گناہوں کا	تو کیا	طرف	نکلنا	سے کوئی	سبیل

دو بار، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا (اب یہاں سے) نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ کہا جائے گا یہ تم پر

بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ

بِأَنَّهُ	إِذَا دُعِيَ اللَّهُ	وَحْدَهُ	كَفَرْتُمْ	وَإِنْ	يُشْرَكَ بِهِ	تُؤْمِنُوا	فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
اس لئے کہ جب	پکارا جاتا اللہ	واحد	تم کفر کرتے	اور اگر	اس کا شریک کیا جاتا	تم مان لیتے	پس حکم اللہ کے لئے

اس لئے (ہے) کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور اگر کسی کو، اس کا شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے، پس حکم اللہ کے لئے ہے

الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۱۲ ۥ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

الْعَلِيِّ	الْكَبِيرِ	هُوَ	الَّذِي	يُرِيكُمُ	آيَاتِهِ	وَيُنَزِّلُ	لَكُم	مِّنَ	السَّمَاءِ	رِزْقًا
بلند	بڑا	وہ	جو کہ	تہیں دکھاتا ہے	اپنی نشانیاں	اور اتارتا ہے	تمہارے لئے	آسمانوں سے	رِزق	

جو بلند، بڑا ہے۔ وہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور تمہارے لئے آسمان سے رِزق اتارتا ہے،

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۱۳ ۥ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ

وَمَا	يَتَذَكَّرُ	إِلَّا	مَن	يُنِيبُ	فَادْعُوا	اللَّهَ	مُخْلِصِينَ	لَهُ	الدِّينَ	وَلَوْ
اور نہیں	نصیحت قبول کرتا	سوائے	جو	رجوع کرتا ہے	پس پکارو	اللہ	خالص کرتے ہوئے	اس کے لئے	عبادت	خواہ

اور اس کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا جو اللہ کی طرف، رجوع کرتا ہے۔ پس تم اللہ کو پکارو، اسی کے لئے عبادت خالص کرتے ہوئے، خواہ

كِرَةً الْكٰفِرُونَ ۱۴ ۥ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِن أَمْرِهِ عَلَى مَن

كِرَةً	الْكٰفِرُونَ	رَفِيعُ	الدَّرَجَاتِ	ذُو	الْعَرْشِ	يُلْقِي	الرُّوحَ	مِن	أَمْرِهِ	عَلَى	مَن
بُرا مانی	کافر (جمع)	بلند	درجے	عرش کا مالک	وہ ذات ہے	روح	اپنے حکم سے	جس پر			

کافر بُرا مانی۔ بلند درجوں والا، عرش کا مالک، وہ اپنے حکم سے روح (روحی) ڈالتا ہے (دھیجتا ہے) جس پر

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۱۵ ۥ يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ ۚ لَا يَخْفَى

يَشَاءُ	مِنْ	عِبَادِهِ	لِيُنذِرَ	يَوْمَ	التَّلَاقِ	يَوْمَ	هُمْ	بَرْزُورٌ	لَا	يَخْفَى
وہ چاہتا ہے	اپنے بندوں میں سے	تاکہ وہ ڈرائے	طافات و قیامت کا دن	جس دن	وہ	ظاہر ہوں گے	نہ پوشیدہ ہوگی			

اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرائے۔ جس دن وہ ظاہر ہوں گے، نہ پوشیدہ ہوگی

عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۱۶ ۥ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۱۷ ۥ

عَلَى	اللَّهِ	مِنْهُمْ	شَيْءٌ	لِمَنِ	الْمُلْكُ	الْيَوْمَ	لِلَّهِ	الْوَاحِدِ	الْقَهَّارِ
اللہ پر	ان سے	کوئی شے	کس کے لئے	بادشاہت	آج	اللہ کے لئے	واحد	زبردست	قہر والا ہے

اللہ پر ان کی کوئی شے (نہی ہوگی) آج کس کے لئے بادشاہت ہے؟ (اعلان ہوگا) اللہ کے لئے جو واحد، زبردست قہر والا ہے

الْيَوْمَ تَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۱۸ ۥ

الْيَوْمَ	تَجْزَىٰ	كُلُّ	نَفْسٍ	بِمَا	كَسَبَتْ	لَا	ظُلْمَ	الْيَوْمَ	إِنَّ	اللَّهَ	سَرِيعُ	الْحِسَابِ
آج	بدلہ دیا جائے گا	ہر شخص	وہ جو اس نے کمایا (اعمال)	نہیں ظلم	آج	بیشک	اللہ	جلد	حساب لینے والا			

آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا، بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ ۗ مَا لِلظَّالِمِينَ

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ ۗ مَا لِلظَّالِمِينَ  
اور انہیں ڈرائیں قریب آنے والا روز قیامت، جب دل دھجج، گلوں کے نزدیک، غم سے بھرے ہوئے، نہیں ظالموں کے لئے

اور انہیں قریب آنے والا روز قیامت سے ڈرائیں، جب دل غم سے بھرے گلوں کے نزدیک (کھیچے منہ کو) آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لئے نہیں

مِنْ حَيْمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۙ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۙ

مِنْ حَيْمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۙ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۙ  
سے۔ کوئی دوست، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور جو چھپاتے ہیں سینے (دھجج)،

کوئی دوست، نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور جو وہ سینوں میں چھپاتے ہیں۔

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ  
اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ اور جو لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا، نہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی

اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے،

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۙ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۙ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ  
بیشک اللہ وہی سُننے والا، دیکھنے والا، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ تو وہ دیکھتے کیا

بیشک اللہ ہی سُننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ تو وہ دیکھتے کیا

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً  
ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے،

وَأَشَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَا كَانَ لَهُمْ

وَأَشَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَا كَانَ لَهُمْ  
اور اشارہ زمین میں، تو انہیں پکڑا اللہ ان کے گناہوں کے سبب اور انہیں ہے ان کے لئے

اور زمین میں اشارہ (نشانیوں کے اعتبار سے بھی)، تو اللہ نے انہیں گناہوں کے سبب پکڑا، اور ان کے لئے نہیں ہے،

اور زمین میں اشارہ (نشانیوں کے اعتبار سے بھی)، تو اللہ نے انہیں گناہوں کے سبب پکڑا، اور ان کے لئے نہیں ہے،

مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاِقٍ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَاْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

مِّنَ اللَّهِ	مِنْ وَاِقٍ	ذٰلِكَ	بِاَنَّهُمْ	كَانَتْ تَاْتِيهِمْ	رُسُلُهُمْ	بِالْبَيِّنٰتِ
اللہ سے	سے۔ کوئی	بچانے والا	یہ	اس لئے کہ وہ	ان کے پاس آتے تھے	ان کے رسول

کوئی اللہ سے بچانے والا۔ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے،

فَكَفَرُوا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۚ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى

فَكَفَرُوا	فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ	اِنَّهُ قَوِيٌّ	شَدِيْدُ الْعِقَابِ	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا	مُوسٰى
تو انہوں نے کفر کیا	پس پکڑا انہیں	اللہ بے شک وہ	قوی سخت عذاب والا	اور تحقیق ہم نے بھیجا	موسیٰ

تو انہوں نے کفر کیا، پس انہیں اللہ نے پکڑا، بیشک وہ قوی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا

بِاٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۚ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ هٰمٰنَ وَ قَارُوْنَ فَقَالُوْا سِحْرٌ

بِاٰتِنَا	وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ	اِلٰى فِرْعَوْنَ	وَ هٰمٰنَ	وَ قَارُوْنَ	فَقَالُوْا سِحْرٌ
اپنی نشانوں کے ساتھ	اور روشن	فرعون کی طرف	اور ہامان	اور قارون	تو انہوں نے کہا جادوگر

اپنی نشانوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون، اور ہامان، اور قارون، کی طرف تو انہوں نے کہا (موسیٰ تو) جادوگر،

كٰذٰبٌ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ

كٰذٰبٌ	فَلَمَّا جَاءَهُمْ	بِالْحَقِّ	مِنْ عِنْدِنَا	قَالُوْا	اِقْتُلُوْا	اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ
بڑا جھوٹا	پھر جب وہ آئے انکے پاس	حق کے ساتھ	ہم سے (پس طرف سے)	انہوں نے کہا	تم قتل کر دو۔	ان کے بیٹے وہ جو

بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے، تو انہوں نے کہا ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو

اٰمَنُوْا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوْا نِسَاءَهُمْ وَ مَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۙ

اٰمَنُوْا	مَعَهُ	وَ اسْتَحْيُوْا	نِسَاءَهُمْ	وَ مَا كَيْدُ	الْكٰفِرِيْنَ	اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ
ایمان لائے	اس کے ساتھ	اور زندہ رہنے دو	ان کی عورتیں (بیٹیاں) اور	اور نہیں داؤ	کافروں	سوائے گمراہی میں

اس کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کا داؤ گمراہی کے سوا (کچھ) نہیں۔

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ اَقْتُلْ مُوسٰى وَ لِيَدْعُرْ رَبَّهُ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ

وَ قَالَ	فِرْعَوْنُ	ذَرُوْنِيْ	اَقْتُلْ مُوسٰى	وَ لِيَدْعُرْ	رَبَّهُ اِنِّيْ	اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ
اور کہا	فرعون	مجھے چھوڑ دو	میں قتل کروں	موسیٰ	اور اسے پکارے دو	اپنا رب بیشک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے

اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے اپنے رب کو پکارنے دو، بیشک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا



دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ

دِينَكُمْ	أَوْ	أَنْ	يُظْهَرَ	فِي	الْأَرْضِ	الْفُسَادَ	وَقَالَ	مُوسَىٰ	إِنِّي	عُذْتُ		
تمہارا دین	یا	یہ	کہ	ظاہر	کروے	(پھیلاوے)	زمین میں	فساد	اور کہا	موسیٰ نے	بیشک میں	پناہ لے لی

تمہارا دین، یا زمین میں فساد پھیلائے گا - اور موسیٰ نے کہا، بیشک میں نے پناہ لے لی ہے

بِرَبِّي وَرَأَيْتُمْ مَنِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۖ وَقَالَ

بِرَبِّي	وَرَأَيْتُمْ	مَنِ	كُلِّ	مُتَكَبِّرٍ	لَا	يُؤْمِنُ	بِيَوْمِ	الْحِسَابِ	وَقَالَ
اپنے رب کی	اور تمہارے رب کی	سے	ہر	مغرور	رجو، ایمان نہیں رکھتا	روزِ حساب پر	اور کہا		

اپنے اور تمہارے رب کی، ہر مغرور سے جو روزِ حساب پر ایمان نہیں رکھتا - اور کہا

رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا

رَجُلًا	مُؤْمِنٌ	مِّنْ	آلِ	فِرْعَوْنَ	يَكْتُمُ	إِيمَانَهُ	أَتَقْتُلُونَ	رَجُلًا
ایک مرد	مؤمن	سے	فرعون کے	لوگ	وہ چھپاتا	ہوئے تھا	اپنا ایمان	کیا تم قتل کرتے ہو

فرعون کے لوگوں میں سے ایک مؤمن مرد نے (جو) اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک آدمی کو (محض اس بات پر) قتل کرتے ہو

أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا

أَنْ	يَقُولَ	رَبِّيَ	اللَّهُ	وَقَدْ	جَاءَكُمْ	بِالْبَيِّنَاتِ	مِنْ	رَبِّكُمْ	وَإِنْ	يَكُ	كَاذِبًا	
کہ وہ	کہتا ہے	میرا رب	اللہ ہے	اور وہ	تمہارے پاس	آیا ہے	کھلی نشانیوں کے	ساتھ	تمہارے رب کی	طرف سے	اور اگر وہ ہے	جھوٹا

کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا ہے اور اگر (بالفرض محال) وہ جھوٹا ہے

فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ

فَعَلَيْهِ	كَذِبُهُ	وَإِنْ	يَكُ	صَادِقًا	يُصِيبْكُمْ	بَعْضُ	الَّذِي	يَعِدُكُمْ	إِنَّ	اللَّهَ
تو اس پر	اس کا جھوٹ	اور اگر	ہے وہ	سچا	تہیں پہنچے گا	کچھ	وہ جو	تم نے وعدہ کرتا ہے	بیشک	اللہ

تو اس کے جھوٹ (کا وبال) اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ (عذاب) تم پر (مضر) پہنچے گا، بیشک اللہ

لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۖ يَقَوْمٌ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ

لَا	يَهْدِي	مَنْ	هُوَ	مُسْرِفٌ	كَذَّابٌ	يَقَوْمٌ	لَكُمْ	الْمُلْكُ	الْيَوْمَ	ظَاهِرِينَ
ہدایت نہیں دیتا	جو ہو	حد سے گزرنے والا	سخت جھوٹا	اے میری قوم	تمہارے لئے	بادشاہت	آج	غالب		

(اسے) ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا، سخت جھوٹا، اے میری قوم آج بادشاہت تمہاری ہے، تم غالب ہو

فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا

فِي	الْأَرْضِ	فَمَنْ	يَنْصُرُنَا	مِنْ	بَأْسِ	اللَّهِ	إِنْ	جَاءَنَا	قَالَ	فِرْعَوْنُ	مَا
زمین	میں	تو	کون	ہماری	مدد	کریگا	سے	اللہ کا	عذاب	اگر وہ آجائے	ہم پر

زمین میں، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آجائے تو اس سے بچانے کے لئے کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں

أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آدَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝۲۹ وَقَالَ الَّذِي

أُرِيكُمْ	إِلَّا	مَا	آدَىٰ	وَمَا	أَهْدِيكُمْ	إِلَّا	سَبِيلَ	الرَّشَادِ	وَقَالَ	الَّذِي
میں دکھاتا	رہتا	ہے	مگر	جو میں	دیکھتا	ہوں	اور	راہ	نہیں دکھاتا	مگر

میں دکھاتا رہتا ہوں اور میں نہیں دکھاتا مگر بھلائی کی راہ۔ اور اس شخص نے کہا جو

أَمَّنَ يَقَوْمِ إِيَّيَّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝۳۰ مِثْلَ دَابِ

أَمَّنَ	يَقَوْمِ	إِيَّيَّيْ	أَخَافُ	عَلَيْكُمْ	مِثْلَ	يَوْمِ	الْأَحْزَابِ	مِثْلَ	دَابِ
ایمان لے	آیا	اے میری	قوم	میں ڈرتا	ہوں	تم پر	مانند	سابقہ	گروہوں

ایمان لے آیا تھا، اے میری قوم! میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کے مانند (عذاب نازل ہونے سے) ڈرتا ہوں، جیسے حال ہوا

قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ

قَوْمِ	نُوحٍ	وَعَادٍ	وَشَمُودَ	وَالَّذِينَ	مِنْ	بَعْدِهِمْ	وَمَا	اللَّهُ	يُرِيدُ
قوم	نوح	اور	عاد	اور	شموذ	اور	جو لوگ	ان کے	بعد

قوم نوح اور عاد اور شموذ کا اور جو ان کے بعد (ہوئے) اور اللہ نہیں چاہتا

ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۝۳۱ وَيَقَوْمِ إِيَّيَّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝۳۲ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ

ظُلْمًا	لِلْعِبَادِ	وَيَقَوْمِ	إِيَّيَّيْ	أَخَافُ	عَلَيْكُمْ	يَوْمَ	التَّنَادِ	يَوْمَ	تَوَلَّوْنَ
کوئی	ظلم	اپنے	بندوں	کے	لئے	اور	اے میری	قوم	میں ڈرتا

اپنے بندوں کے لئے کوئی ظلم۔ اور اے میری قوم! میں تم پر چیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں۔ جس دن تم بھاگو گے

مُدْبِرِينَ ۝ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ

مُدْبِرِينَ	مَا	لَكُمْ	مِنَ	اللَّهِ	مِنْ	عَاصِمٍ	وَمَنْ	يُضِلِلِ	اللَّهُ	فَمَا	لَهُ
پیٹھ	پھیر	کر	نہیں	تہا	رے	لئے	اللہ	سے	کوئی	بچانے	والا

پیٹھ پھیر کر، تمہارے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ رہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے گا اس کے لئے کوئی نہیں

مِنْ هَآءِ ۚ وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ

مِنْ هَآءِ ۚ	وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ	يُوسُفُ	مِنْ قَبْلُ	بِالْبَيِّنَاتِ	فَمَا زِلْتُمْ	فِي شَكِّ
کوئی ہدایت دینے والا	اور تحقیق آئے تمہارے پاس	یوسفؑ	اس سے قبل	(واضح دلائل کے ساتھ)	سو تم ہمیشہ رہے	شک میں

ہدایت دینے والا۔ اور تحقیق تمہارے پاس اس سے قبل یوسفؑ واضح دلائل کے ساتھ آئے، سو تم ہمیشہ شک میں رہے

مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۗ

مِمَّا جَاءَكُمْ	بِهِ حَتَّىٰ	إِذَا هَلَكَ	قَلْتُمْ	لَنَ يَبْعَثَ	اللَّهُ	مِنْ بَعْدِهِ	رَسُولًا ۗ
اس سے آئے تمہارے پاس	اسکے ساتھ یہاں تک	جب	وہ فوت ہو گئے	تم نے کہا	اللہ	اس کے بعد	کوئی رسول

اس کے بارے میں، جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۗ ۝۳۳ ۚ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيٰتِ اللّٰهِ

كَذٰلِكَ	يُضِلُّ	اللَّهُ	مَن هُوَ	مُسْرِفٌ	مُرْتَابٌ ۗ	۝۳۳ ۚ	الَّذِيْنَ	يُجَادِلُوْنَ	فِيْ	آيٰتِ	اللّٰهِ
اسی طرح	گمراہ کرتا ہے	اللہ	جو وہ	بے گزرنے والا	شک میں ہونے والا		جو لوگ	جھگڑا کرتے ہیں	میں	اللہ کی آیتیں	

اسی طرح اللہ (اسے) گمراہ کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک میں ہونے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑاتے ہیں

بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اٰتٰهُم كِبْرًا مَّقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ	اٰتٰهُم	كِبْرًا	مَّقْتًا	عِنْدَ اللّٰهِ	وَعِنْدَ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا
بغیر کسی دلیل	آئی ان کے پاس	سخت ناپسند		اللہ کے نزدیک	اور نزدیک	ان لوگوں کے جو	ایمان لائے

کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو (انکی یہ کج بختی) سخت ناپسند ہے، اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۗ ۝۳۵ ۚ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهٰمٰنُ

كَذٰلِكَ	يَطْبَعُ	اللّٰهُ	عَلٰى	كُلِّ	قَلْبٍ	مُّتَكَبِّرٍ	جَبَّارٍ ۗ	۝۳۵ ۚ	وَقَالَ	فِرْعَوْنُ	يٰهٰمٰنُ
اسی طرح	مہر لگا دیتا ہے	اللہ	پر	ہر دل	مغرور	سرکش	اور کہا		فرعون	اے ہامان	

اسی طرح اللہ ہر مغرور، سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے ہامان!

اِبْنِ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۗ ۝۳۶ ۚ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلَى الْاِلٰهِ مُوسٰى

اِبْنِ	لِىْ	صَرْحًا	لَّعَلِّيْ	اَبْلُغُ	الْاَسْبَابَ ۗ	۝۳۶ ۚ	اَسْبَابَ	السَّمٰوٰتِ	فَاَطَّلِعَ	اِلَى	الْاِلٰهِ	مُوسٰى
بنا دے تو	میرے لئے	ایک بلند محل	شاید کہیں	پہنچ جاؤں	راستے		راستے	آسمانوں	پس جھانکوں	طرف کو	معبود	موسىؑ

میرے لئے ایک بلند عمارت بنا، شاید کہیں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ آسمانوں کے راستے، پس میں موسیٰؑ کے معبود کو جھانک لوں

وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ

وَإِنِّي	لَأَظُنُّهُ	كَاذِبًا	وَكَذَلِكَ	زُيِّنَ	لِفِرْعَوْنَ	سُوءَ	عَمَلِهِ	وَصَدَّ
اور بیشک میں	اسے البتہ جھوٹا مان کرتا ہوں	جھوٹا	اور اسی طرح	آراستہ دکھائے گئے	فرعون کو	اس کے بُرے عمل	اور وہ روک دیا گیا	

اور بیشک میں اسے البتہ جھوٹا مان کرتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے بُرے عمل آراستہ دکھائے گئے اور وہ روک دیا گیا

عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۚ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ

عَنِ	السَّبِيلِ	وَمَا كَيْدُ	فِرْعَوْنَ	إِلَّا فِي	تَبَابٍ	وَقَالَ	الَّذِي آمَنَ	يَوْمَ
سے	سببِ راستہ	اور نہیں تدبیر	فرعون	مگر صرف	تباہی میں	اور کہا	وہ جو ایمان لے آیا تھا	اسے میری قوم

سببِ راستہ سے، اور فرعون کی تدبیر صرف تباہی ہی تھی۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا، اس نے کہا اے میری قوم!

اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۚ يَقَوْمِ إِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ

اتَّبِعُونِ	أَهْدِيكُمْ	سَبِيلَ	الرَّشَادِ	يَقَوْمِ	إِنَّمَا	هِيَ	الدُّنْيَا	مَتَاعٌ
تم میری پیروی کرو	میں تمہیں راہ دکھاؤں گا	راستہ	بھلائی	اے میری قوم	اسکے سوا نہیں	یہ	دنیا کی زندگی	دھوڑا، فائدہ

تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں گا۔ اے میری قوم! اس کے سوا نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے،

وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۚ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

وَإِنَّ	الْآخِرَةَ	هِيَ	دَارُ الْقَرَارِ	مَنْ	عَمِلَ	سَيِّئَةً	فَلَا يُجْزَى	إِلَّا	مِثْلَهَا
اور بیشک	آخرت	یہ	(ہمیشہ رہنے کا گھر)	جو	عمل کیا	برا	اسے بدلہ نہ دیا جائیگا	مگر	اسی جیسا

اور آخرت بیشک ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس شخص نے بُرا عمل کیا اسے اُس جیسا بدلہ دیا جائے گا،

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

وَمَنْ	عَمِلَ	صَالِحًا	مِّنْ	ذَكَرٍ	أَوْ	أُنْثَىٰ	وَهُوَ	مُؤْمِنٌ	فَأُولَٰئِكَ	يَدْخُلُونَ
اور جو جس	عمل کیا	اچھا	سے خواہ	مرد	یا عورت	اور (بشرطیکہ)	وہ مومن	تو یہی لوگ	داخل ہوں گے	

اور جس نے اچھا عمل کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ داخل ہوں گے

الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا بغيرِ حِسَابٍ ۚ وَيَقَوْمِ مَالِي ۖ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ

الْجَنَّةَ	يَرْزُقُونَ	فِيهَا	بغيرِ	حِسَابٍ	وَيَقَوْمِ	مَالِي	أَدْعُوكُمْ	إِلَى	النَّجْوَةِ
جنت	وہ رزق دینے جائیں گے	اس میں	بے	حساب	اور اے میری قوم	کیا ہوا مجھے	میں بلاتا ہوں تمہیں	طرف	نجات

جنت میں، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم! مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں!

التَّوْحِيدِ

وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۖ تَدْعُونَنِي لِأَكْفَرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا

وَتَدْعُونَنِي	إِلَى	النَّارِ	تَدْعُونَنِي	لِأَكْفَرُ	بِاللَّهِ	وَأُشْرِكَ	بِهِ	مَا
اور بلاتے ہو تم مجھے	طرف	آگ (جہنم)	تم بلاتے ہو مجھے	کہ میں انکار کروں	اللہ کا	اور میں شریک ٹھہراؤں	اسکے ساتھ	جو

اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اُسے شریک ٹھہراؤں

لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۖ لَا جَرَمَ لَنَا

لَيْسَ	لِي	بِهِ	عِلْمٌ	وَأَنَا	أَدْعُوكُمْ	إِلَى	الْعَزِيزِ	الْغَفَّارِ	لَا جَرَمَ	لَنَا
نہیں	مجھے	اس کا	کوئی علم	اور میں	بلاتا ہوں تمہیں	طرف	غالب	بخشنے والا	کوئی شک نہیں	یہ کہ

جس کا مجھے کوئی علم نہیں اور میں تمہیں غالب بخشنے والے (اللہ) کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ

تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا

تَدْعُونَنِي	إِلَيْهِ	لَيْسَ	لَهُ	دَعْوَةٌ	فِي	الدُّنْيَا	وَلَا	فِي	الْآخِرَةِ	وَأَنْ	مَرَدَّنَا
تم بلاتے ہو مجھے	اس کی طرف	نہیں	اسکے لئے	دعوت	دنیا میں	اور نہ	آخرت میں	اور یہ کہ	پھر جانے	ہیں	

تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کا دنیا میں اور آخرت میں (کچھ بھی) نہیں اور یہ کہ ہمیں پھر جانا ہے

إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ فَسَتَدْكُرُونَ

إِلَى	اللَّهِ	وَأَنَّ	الْمُسْرِفِينَ	هُم	أَصْحَابُ	النَّارِ	فَسَتَدْكُرُونَ
اللہ کی طرف	اور یہ کہ	حد سے بڑھنے والے	وہ۔ وہی	آگ والے (جہنمی)	سوم	جلدی یاد کرو گے	

اللہ کی طرف، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے ہی جہنمی ہیں۔ سوم جلدی یاد کرو گے

مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۖ

مَا	أَقُولُ	لَكُمْ	وَأُفْوِضُ	أَمْرِي	إِلَى	اللَّهِ	إِنَّ	اللَّهَ	بَصِيرٌ	بِالْعِبَادِ
جو میں کہتا ہوں	تمہیں	اور میں سونپتا ہوں	اپنا کام	اللہ کو	بیشک	اللہ	دیکھنے والا	بندوں کو		

جو میں تمہیں کہتا ہوں اور میں اپنا کام (مواخذہ) اللہ کو سونپتا ہوں، بیشک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔

فَوَقَدُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۖ

فَوَقَدُ	اللَّهُ	سَيِّئَاتٍ	مَا	مَكَرُوا	وَحَاقَ	بِآلِ	فِرْعَوْنَ	سُوءُ	الْعَذَابِ
سو اسے بچالیا	اللہ	برائیاں	داؤ جو وہ کرتے تھے	اور گھیر لیا	فرعون والوں کو	بڑا عذاب			

سو اللہ نے اسے بچا لیا، ان، برے داؤ سے جو وہ کرتے تھے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔

النَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ أَدْوَابًا

النَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْوَابًا

آگ وہ ظہر کئے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام اور جس دن قائم ہوگی تیاست داخل کرو تم (جہنم کی) آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں، اور جس دن تیاست قائم ہوگی (حکم ہوگا) تم داخل کرو

أَلْ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۖ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ

أَلْ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ

فرعون والے شدید ترین عذاب اور وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے آگ جہنم میں تو کہیں گے

الضَّعْفَاءِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ

الضَّعْفَاءِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ

مرد اور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے، بیشک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے تو کیا اب تم دور کر دو گے

عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ۗ

عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ۗ

ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہے۔ آگ کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے، بیشک ہم سب اس میں ہیں

إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِهِ

إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِهِ

بیشک اللہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے داروغوں

جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ قَالُوا أَوْ

جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ قَالُوا أَوْ

جہنم تم دعا کرو اپنے رب سے ہلکا کر دے ہم سے ایک دن سے کا عذاب وہ کہیں گے کیا

جہنم کے نگہبان فرشتوں کو اپنے رب سے دعا کرو، ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے، کیا

لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا

لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا

نہیں تھے تمہارے پاس آتے تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ وہ کہیں گے ہاں وہ کہیں گے تو تم پکارو اور نہ

تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں! (کیوں نہیں، وہ کہیں گے تو تم پکارو، اور نہ ہوگی

دُعَاؤُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝۵۱ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

دُعَاؤُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝۵۱ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

پکار (جمع، کافر) مگر (گراہی میں رہے سود) بیشک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسول (جمع) اور جو لوگ ایمان لائے

کافروں کی پکار مگر بے سود۔ بیشک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝۵۲ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝۵۲ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ

میں زندگی دنیا اور جس دن کھڑے ہونگے گواہی دینے والے جس دن نفع نہ دے گی جمع ظالم

دنیا کی زندگی میں اور (اس دن بھی) جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ جس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی

مَعْدٰرَتُهُمْ وَ لَهُمُ الْعَنٰةُ وَ لَهُمْ سُوْءُ الدّٰرِ ۝۵۳ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْهُدٰى

مَعْدٰرَتُهُمْ وَ لَهُمُ الْعَنٰةُ وَ لَهُمْ سُوْءُ الدّٰرِ ۝۵۳ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْهُدٰى

ان کی عذر خواہی اور ان کے لئے لعنت اور ان کے لئے بُرا گھر (ٹھکانا) اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو ہدایت

ان کی عذر خواہی، اور ان کے لئے لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور ان کے لئے بُرا گھر ہے۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت (توریت) دی

وَ اَوْسَرْنَا بَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ الْكِتٰبِ ۝۵۴ وَ هٰدٰى وَ ذِكْرٰى لِاَوْلٰى الْاَلْبَابِ ۝۵۵

وَ اَوْسَرْنَا بَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ الْكِتٰبِ ۝۵۴ وَ هٰدٰى وَ ذِكْرٰى لِاَوْلٰى الْاَلْبَابِ ۝۵۵

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (توریت) اور ہدایت اور نصیحت عقل مندوں کے لئے

اور ہم نے بنی اسرائیل کو توریت کا وارث بنایا (جو) عقلمندوں کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے۔

فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

پس آپ صبر کریں بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور مغفرت طلب کریں اپنے گناہوں کے لئے اور پاکیزگی بیان کریں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ

پس آپ صبر کریں بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کریں

بِالْعِشْيِ وَالْإِبْكَارِ ۝۵۵ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ

بِالْعِشْيِ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ

شام اور صبح ۔ بیشک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں میں اللہ کی آیات بغیر

شام اور صبح ۔ بیشک وہ لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، میں بغیر

سُلْطِنٍ أَتَهُمْ ۚ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ

سُلْطِنٍ أَتَهُمْ ۚ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ

کسی سند ان کے پاس آئی ہو نہیں میں ان کے سینے (دل)، سوائے تکبر نہیں وہ اس تک پہنچنے والے

کسی سند کے، جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں تکبر (بڑائی کی ہوس) کے سوا کچھ نہیں، جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں۔

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۵۶ تَخَلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۵۶ تَخَلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

پس آپ اللہ کی پناہ چاہیں، بیشک وہ وہی سنتے والا دیکھنے والا یقیناً پیدا کرنا آسمانوں اور زمین

پس آپ اللہ کی پناہ چاہیں، بیشک وہی سنتے والا دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا

أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷ وَمَا يَسْتَوِي

أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷ وَمَا يَسْتَوِي

بہت بڑا سے لوگوں کو پیدا کرنا اور لیکن اکثر لوگ جانتے دیکھتے نہیں اور برابر نہیں

لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اور برابر نہیں

الْأَعْيَى وَالْبَصِيرُ ۝۵۸ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۝۵۹ قَلِيلًا

الْأَعْيَى وَالْبَصِيرُ ۝۵۸ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۝۵۹ قَلِيلًا

نا بینا اور بینا اور جن لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے اور نہ بدکار بہت کم

نا بینا اور بینا، اور دنم وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے اور نہ وہ جو بدکار ہیں۔ بہت کم

مَا تَتَذَكَّرُونَ ۝۵۹ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۚ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

مَا تَتَذَكَّرُونَ ۝۵۹ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۚ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

جو تم غور و فکر کرتے ہو بیشک قیامت ضرور آنے والی نہیں شک اس میں اور لیکن اکثر

تم غور و فکر کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر



النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

النَّاسِ	لَا يُؤْمِنُونَ	وَقَالَ رَبُّكُمْ	ادْعُونِي	أَسْتَجِبْ	لَكُمْ	إِنَّ	الَّذِينَ
لوگ	ایمان نہیں لاتے	اور کہا	تمہارا رب	تم دعا کرو مجھ سے	میں قبول کروں گا	تمہاری	بیشک

لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا، قبول کروں گا، بیشک جو لوگ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿۶۰﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ

يَسْتَكْبِرُونَ	عَنْ	عِبَادَتِي	سَيَدْخُلُونَ	جَهَنَّمَ	دَاخِرِينَ	اللَّهُ	الَّذِي	جَعَلَ
تکبر کرتے ہیں	سے	میری عبادت	غفریب وہ داخل ہوں گے	جہنم	خوار ہو کر	اللہ	وہ جس نے	بنائی

میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں غفریب خوار ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائی

لَكُمْ الْيَلَّ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ

لَكُمْ	الْيَلَّ	لِتَسْكُنُوا	فِيهِ	وَالنَّهَارَ	مُبْصِرًا	إِنَّ	اللَّهَ	لَذُو	فَضْلٍ
تمہارے لئے	رات	تا کہ تم کو نیک	اس میں	اور دن	دکھانے کو	بیشک	اللہ	فضل والا	

تمہارے لئے رات تا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن دکھانے کو روشن بنایا، بیشک اللہ فضل والا ہے

عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۱﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ

عَلَى	النَّاسِ	وَلَكِنَّ	أَكْثَرَ	النَّاسِ	لَا	يَشْكُرُونَ	ذَلِكُمْ	اللَّهُ	رَبُّكُمْ
لوگوں پر	اور لیکن	اکثر لوگ	شکر نہیں کرتے	یہ ہے	اللہ	تمہارا پروردگار			

لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار

خَائِقٌ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِي تَوْفَكُونَ ﴿۶۲﴾ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ

خَائِقٌ	كُلِّ	شَيْءٍ	إِلَّا	إِلَهَ	إِلَّا	هُوَ	فَآئِي	تَوْفَكُونَ	كَذَلِكَ	يُؤْفِكُ	الَّذِينَ
پیدا کرنے والا	ہر شے	نہیں	کوئی	سوا	اس کے	سوا	تو کہاں تم	اٹلے پھرے جاتے ہو	اسی طرح	اٹلے پھرتے ہیں	وہ لوگ جو

ہر شے کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں اٹلے پھرے جاتے ہو؛ اسی طرح وہ لوگ اٹلے پھرتے ہیں جو

كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۶۳﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا

كَانُوا	بِآيَاتِ	اللَّهِ	يَجْحَدُونَ	اللَّهُ	الَّذِي	جَعَلَ	لَكُمْ	الْأَرْضَ	قَرَارًا
تھے	اللہ کی آیات سے	کا	وہ انکار کرتے	اللہ	وہ جس نے	اس کو بنایا	تمہارے لئے	زمین	قرار گاہ

اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہے، جس نے تمہارے لئے زمین کو قرار گاہ بنایا،

وَالسَّمَاءِ بِنَاءٍ وَصَوْرَكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ط

وَالسَّمَاءِ	بِنَاءٍ	وَصَوْرَكُمْ	فَاحْسَنَ	صُورَكُمْ	وَرَزَقَكُمْ	مِنَ	الطَّيِّبَاتِ
اور آسمان	چھت	اور تمہیں صورت دی	تو بہت ہی حسین	تمہیں صورت دی	اور تمہیں رزق دیا	سے	پاکیزہ چیزیں

اور آسمان کو چھت (بنایا) اور تمہیں صورت دی تو بہت ہی حسین صورت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۳﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ

ذِكْرُ	اللَّهُ	رَبِّكُمْ	فَتَبَرَّكَ	اللَّهُ	رَبُّ	الْعَالَمِينَ	هُوَ	الْحَيُّ	لَا	إِلَهَ
یہ ہے	اللہ	تمہارا پروردگار	سو برکت والا	اللہ	پروردگار	سارے جہان	وہی	زندہ	نہیں	کوئی معبود

یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، سو برکت والا ہے اللہ، سارے جہان کا پروردگار۔ وہی زندہ رہنے والا ہے، نہیں کوئی معبود

إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۵﴾ قُلْ

إِلَّا	هُوَ	فَادْعُوهُ	مُخْلِصِينَ	لَهُ	الدِّينَ	ط	أَحْمَدُ	لِلَّهِ	رَبِّ	الْعَالَمِينَ	﴿۶۵﴾	قُلْ
سوائے	اس کے	پس تم پکارو اسے	خالص کر کے	اس کے لئے	عبادت	تمام تعریفیں اللہ کے لئے	پروردگار	سارے جہان	آپ کے	فرمادیں		

اس کے سوا پس تم اس کے لئے عبادت خالص کر کے اُسی کو پکارو، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سارے جہان کا پروردگار۔ آپ فرمادیں

إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي

إِنِّي	نَهَيْتُ	أَنْ	أَعْبُدَ	الَّذِينَ	تَدْعُونَ	مِنْ	دُونِ	اللَّهِ	لَمَّا	جَاءَنِي
بیشک	میں	مجھے	منع	کر	دیا گیا ہے	کہ	پرستش	کروں	میں	وہ جن کی

بیشک مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جن کی تم اللہ کے سوا پلو جا کرتے ہو، جب میرے پاس آ گئیں

الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۶﴾ هُوَ الَّذِي

الْبَيِّنَاتُ	مِنْ	رَبِّي	وَأُمِرْتُ	أَنْ	أُسَلِّمَ	لِرَبِّ	الْعَالَمِينَ	﴿۶۶﴾	هُوَ	الَّذِي
کھلی نشانیاں	میرے	رب سے	اور مجھے	حکم	دیا گیا	کہ	میں	اپنی	گردن	جھکا دوں

میرے رب (کی طرف) سے کھلی نشانیاں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے لئے اپنی گردن جھکا دوں، وہ جس نے

خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

خَلَقَكُمْ	مِنْ	تُرَابٍ	ثُمَّ	مِنْ	نُطْفَةٍ	ثُمَّ	مِنْ	عَلَقَةٍ	ثُمَّ	يُخْرِجُكُمْ
پیدا کیا	میں	مٹی سے	پھر	نطفہ	سے	پھر	لوتھڑے	سے	پھر	تمہیں نکالتا ہے

نہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے (ماں کے پیٹ سے)

طِفْلًا ثُمَّ تَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى

طِفْلًا	ثُمَّ	تَبَلَّغُوا	أَشَدَّكُمْ	ثُمَّ	لِتَكُونُوا	شِيُوخًا	وَمِنْكُمْ	مَنْ يُتَوَقَّى
بچہ سا	پھر	تاکہ تم پہنچو	ایسی جوانی	پھر	تاکہ تم ہو جاؤ	بوڑھے	اور تم میں سے	جو فوت ہو جاتا ہے

بچہ سا پھر کہیں باقی رکھتا ہے، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے، تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے (کوئی ہے) جو فوت ہو جاتا ہے

مِنْ قَبْلُ وَتَبَلَّغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَتَعْلَمُ تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي

مِنْ قَبْلُ	وَتَبَلَّغُوا	أَجَلًا مُّسَمًّى	وَتَعْلَمُ	تَعْقِلُونَ	هُوَ الَّذِي	يُحْيِي
اس سے قبل	اور تاکہ پہنچو تم	دنت مقررہ	اور تاکہ تم	سمجھو	وہی ہے جو	زندگی عطا کرتا ہے

اس سے قبل، اور تاکہ تم سب (اپنے اپنے) دنت مقررہ کو پہنچو (مقصود یہ ہے) تاکہ تم سمجھو۔ وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے

وَيُيِّتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۶۸﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

وَيُيِّتُ	فَإِذَا	قَضَىٰ	أَمْرًا	فَإِنَّمَا	يَقُولُ	لَهُ	كُنْ	فَيَكُونُ	أَلَمْ تَرَ	إِلَى	الَّذِينَ
اور مارتا ہے	پھر جب	وہ فیصلہ کرتا ہے	کسی امر	تو اس کے سوا نہیں	وہ کہتا اس کے لئے	تو ہو جا	سودہ ہو جاتا ہے	کیا نہیں دیکھا تم	طرف	جو لوگ	

اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اس کو کہتا ہے "ہو جا" سودہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي يَصْرَفُونَ ﴿۶۹﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا

يُجَادِلُونَ	فِي	آيَاتِ	اللَّهِ	الَّتِي	يَصْرَفُونَ	الَّذِينَ	كَذَّبُوا	بِالْكِتَابِ	وَبِمَا
جھگڑتے ہیں	ہیں	اللہ کی آیات	کہاں	پھرے جاتے ہیں	جن لوگوں نے	جھٹلایا	کتاب کو	اور اس کو جو	

اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھرے جاتے (بھگتے) ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے

أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَ

أَرْسَلْنَا	بِهِ	رُسُلًا	فَسَوْفَ	يَعْلَمُونَ	إِذِ	الْأَغْلُلُ	فِي	أَعْنَاقِهِمْ	وَ
ہم نے بھیجا	اس کے ساتھ	اپنے رسول	پس جلد	وہ جان لیں گے	جب	طوق (جمع)	ان کی گردنوں میں	اور	

جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پس وہ جلد جان لیں گے۔ جب ان کی گردنوں میں طوق اور

السَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿۷۱﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿۷۲﴾ ثُمَّ قِيلَ

السَّلْسِلُ	يُسْحَبُونَ	فِي	الْحَمِيمِ	ثُمَّ	فِي	النَّارِ	يُسْجَرُونَ	ثُمَّ	قِيلَ
زنجیریں	وہ گھیسٹے جائیں گے	کھولتے ہوئے پانی میں	پھر	آگ میں	وہ جھونک دیئے جائیں گے	پھر	کہا جائے گا		

زنجیریں ہوں گی، وہ گھیسٹے جائیں گے۔ کھولتے ہوئے پانی میں پھر وہ آگ (جہنم) میں جھونک دیئے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا،

لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿۴۳﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ

لَهُمْ	آيِنَ	مَا كُنْتُمْ	تُشْرِكُونَ	مِنْ دُونِ اللَّهِ	قَالُوا	ضَلُّوا	عَنَّا	بَلْ
ان کو	کہاں	جن کو تم تھے	شریک کرتے	اللہ کے سوا	وہ کہیں گے	وہ گم ہو گئے	ہم سے	بلکہ

ان کو کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ

لَمْ تَكُنْ تَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿۴۴﴾ ذِكْرُكُمْ

لَمْ	تَكُنْ	تَدْعُوا	مِنْ قَبْلُ	شَيْئًا	كَذَلِكَ	يُضِلُّ	اللَّهُ	الْكَافِرِينَ	ذِكْرُكُمْ
نہیں	پکارتے تھے ہم	اس سے قبل	کوئی چیز	اسی طرح	گمراہ کرتا ہے	اللہ	اللہ	کافروں	یہ

ہم تو اس سے قبل کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ

بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴿۴۵﴾

بِمَا	كُنْتُمْ	تَفْرَحُونَ	فِي الْأَرْضِ	بِغَيْرِ الْحَقِّ	وَبِمَا	كُنْتُمْ	تَفْرَحُونَ
اس کا بدلہ جو	تم خوش ہوتے تھے	زمین میں	ناحق	اور بدلہ اس کا جو	تم تھے	اتر اتے	

اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناحق خوش ہوتے دھرتے تھے، اور بدلہ ہے اس کا جو پر تم اتر اتے تھے۔

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۴۶﴾

ادْخُلُوا	أَبْوَابَ	جَهَنَّمَ	خَالِدِينَ	فِيهَا	فَبئسَ	مَثْوًى	الْمُتَكَبِّرِينَ
تم داخل ہو جاؤ	دروازے	جہنم	ہمیشہ رہنے کو	اس میں	سو برا	ٹھکانا	تکبر کرنے والوں کا۔

تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہنے کو، سو برا بننے والوں کا برا ہے ٹھکانا۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَأِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ

فَاصْبِرْ	إِنَّ	وَعْدَ اللَّهِ	حَقٌّ	فَأِمَّا	نُرِيَنَّكَ	بَعْضَ	الَّذِي	نَعِدُهُمْ	أَوْ
پس آپ صبر کریں	بیشک	اللہ کا وعدہ	سچا	پس اگر	ہم آپ کو دکھادیں	بعض (کچھ حصہ)	وہ جو	ہم ان کے وعدہ کرتے ہیں	یا

پس آپ صبر کریں، بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس اگر ہم آپ کو اس (عذاب) کا کچھ حصہ دکھادیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا اس سے قبل،

نَتَوْفِيَنَّكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ ﴿۴۷﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

نَتَوْفِيَنَّكَ	فَإِنَّا	يَرْجِعُونَ	وَلَقَدْ	أَرْسَلْنَا	رُسُلًا	مِنْ قَبْلِكَ	مِنْهُمْ	مَنْ
ہم آپ کو وفات دیدیں	پس ہماری طرف	وہ لوٹائے جائیں گے	اور تحقیق	ہم نے بھیجے	بہت سے رسول	آپ سے پہلے	ان میں سے	جو جن

ہم آپ کو وفات دیدیں (بہر صورت)، وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان میں سے کچھ ہیں، جن کا

قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

قَصَصْنَا عَلَيْكَ	وَمِنْهُمْ مَنْ	لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ	وَمَا كَانَ	لِرَسُولٍ
آپ پر سے	اور ان میں سے	جو جن ہم نے حال نہیں بیان کیا	آپ پر سے	اور نہ تھا

آپ نے حال بیان کیا اور ان میں سے (کچھ ہیں) جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور کسی رسول کے لئے (مفذور) نہ تھا

أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ

أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا	بِإِذْنِ اللَّهِ	فَإِذَا جَاءَ	أَمْرُ اللَّهِ	قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ
کہ وہ لائے	کوئی نشانی	مگر بغیر	اللہ کے حکم سے	سوجب آگیا

کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر لائے، سو جب اللہ کا حکم آگیا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور

خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۝۴۸ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا

خَسِرَ هُنَالِكَ	الْمُبْطِلُونَ ۝۴۸	اللَّهُ الَّذِي	جَعَلَ لَكُمْ	الْأَنْعَامَ	لِتَرْكَبُوا
گھاٹے میں رہ گئے	اس وقت	اہل باطل	اللہ	رہ جس نے	بنائے تمہارے لئے

اہل باطل اس وقت گھاٹے میں رہ گئے۔ اللہ (ہی) ہے جس نے تمہارے لئے جو پائے بنائے تاکہ تم سوار ہو

مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝۴۹ وَلكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

مِنْهَا وَمِنْهَا	تَأْكُلُونَ ۝۴۹	وَلكُمْ فِيهَا	مَنَافِعُ	وَلِتَبْلُغُوا	عَلَيْهَا حَاجَةً	فِي صُدُورِكُمْ
ان سے	اور ان سے	تم کھاتے ہو	اور تمہارے لئے	ان میں	بہت فائدے	اور تاکہ تم پہنچو

ان میں سے (یعنی پر) اور ان میں سے (یعنی) تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان میں بہت فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی (اور منہ کی) حاجت کو پہنچو

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝۵۰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۚ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ

وَعَلَيْهَا وَعَلَى	الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝۵۰	وَيُرِيكُمْ	آيَاتِهِ ۚ	فَأَيُّ	آيَاتِ اللَّهِ
اور ان پر	اور کشتیوں پر	تم لے پھرتے ہو	اور وہ دکھاتا ہے	تہیں	اپنی نشانیاں

اور ان پر اور کشتیوں پر تم لے پھرتے ہو۔ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تم اللہ کی کن کن نشانوں کا

تُنْكِرُونَ ۝۵۱ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

تُنْكِرُونَ ۝۵۱	أَفَلَمْ يَسِيرُوا	فِي الْأَرْضِ	فَيَنْظُرُوا	كَيْفَ كَانَ	عَاقِبَةُ
تم انکار کرو گے	ہں کیا وہ	چلے پھرے نہیں	زمین میں	تو وہ دیکھتے	کیا ہوا

انکار کرو گے؟ پس کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ تو وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ

الَّذِينَ	مِنْ قَبْلِهِمْ	كَانُوا	أَكْثَرَ مِنْهُمْ	وَأَشَدَّ	قُوَّةً	وَأَثَارًا	فِي الْأَرْضِ
ان لوگوں کا جو	ان سے قبل	وہ تھے	بہت زیادہ ان سے	اور بہت زیادہ	توت	اور آثار	زمین میں

ان لوگوں کا جو ان سے قبل تھے، وہ تعداد اور قوت ان سے بہت زیادہ تھے، اور وہ زمین میں ان سے بڑھ چڑھ کر، آثار (چھوڑ گئے)

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

فَمَا	أَغْنَىٰ	عَنْهُمْ	مَا	كَانُوا	يَكْسِبُونَ	فَلَمَّا	جَاءَتْهُمْ	رُسُلُهُمْ	بِالْبَيِّنَاتِ
سو نہ	وہ کام آیا	ان کے	جو	وہ کماتے	دکرتے، تھے	پھر جب	ان کے پاس آئے	ان کے رسول	کھلی نشانیوں کے ساتھ

سو جو وہ کرتے تھے ان کے (کچھ) کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے

فِرْحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۸۳﴾

فِرْحُوا	بِمَا	عِنْدَهُمْ	مِنَ الْعِلْمِ	وَحَاقَ	بِهِمْ	مَا	كَانُوا	بِهِ	يَسْتَهْزِءُونَ
خوش ہوئے	ان کے پاس	علم سے	اور گھیر لیا	انہیں	جو وہ تھے	اس کا	مذاق اڑاتے		

تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا اور انہیں اس (عذاب) نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ

فَلَمَّا	رَأَوْا	بَأْسَنَا	قَالُوا	آمَنَّا	بِاللَّهِ	وَحَدَاهُ	وَكَفَرْنَا	بِمَا	كُنَّا	بِهِ
پھر جب	انہوں نے دیکھا	ہمارا عذاب	وہ کہنے لگے	ہم ایمان لائے	اللہ پر	وہ واحد	اور ہم منکر ہوئے	وہ جس	ہم تھے	اس کے ساتھ

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ہم اس کے منکر ہوئے جس کو ہم اس کے ساتھ

مُشْرِكِينَ ﴿۸۴﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ

مُشْرِكِينَ	فَلَمْ يَكُ	يَنْفَعُهُمْ	إِيمَانُهُمْ	لَمَّا رَأَوْا	بَأْسَنَا	سُنَّتَ	اللَّهِ
شریک کرتے	تو نہ ہوا	ان کو نفع دینا	ان کا ایمان	جب انہوں نے دیکھا	ہمارا عذاب	اللہ کا دستور	

شریک کرتے تھے۔ تو اب ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، اللہ کا دستور ہے

الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿۸۵﴾

الَّتِي	قَدْ خَلَتْ	فِي عِبَادِهِ	وَخَسِرَ	هُنَالِكَ	الْكَافِرُونَ
وہ جو	گزر چکا ہے	اس کے بندوں میں	اور گھاٹے میں گئے	اس وقت	کافر (جمع)

جو اس کے بندوں میں گزر چکا (ہونا چلا آیا ہے)، اور اس وقت کافر گھاٹے میں رہ گئے۔

آیاتھا ۵۴

۳۱ = سورۃ حم السجدة مکیہ: ۶۱

کرواھا ۶

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے

حَمَّ ۱ تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۲ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آیٰتُهُ قَرٰنًا

حَمَّ	تَنْزِیْلٌ	مِّنَ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِیْمِ	كِتَابٌ	فَصَّلَتْ	آیٰتُهُ	قَرٰنًا
حَمَّ	نازل کیا ہوا	سے	نہایت رحم کرنے والا	مہربان	ایک کتاب	جدا جدا واضح کردی اسکی آیتیں	قرآن	

حَمَّ دیکلام، نازل کیا ہوا ہے، نہایت رحم کرنے والے مہربان (اللہ کی طرف) سے۔ یہ ایک کتاب ہے اس کی آیتیں واضح کر دی گئی ہیں، قرآن

عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۳ بِشِیْرًا وَنَذِیْرًا ۴ فَاَعْرَضَ اَکْثَرُهُمْ فَهَمُّ

عَرَبِیًّا	لِّقَوْمٍ	یَّعْلَمُوْنَ	بَشِیْرًا	وَ نَذِیْرًا	فَاَعْرَضَ	اَکْثَرُهُمْ	فَهَمُّ
عربی زبان میں	ان لوگوں کے لئے	دہ جانتے ہیں	خوشخبری دینے والا	اور ڈرسانے والا	سو منہ پھیر لیا	ان میں سے اکثر	پس وہ

عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں۔ خوشخبری دینے والا، اور ڈرسانے والا۔ سو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، پس وہ

لَا یَسْمَعُوْنَ ۵ وَقَالُوا قُلُوْبُنَا فِیْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَیْهِ وَ

لَا	یَسْمَعُوْنَ	وَقَالُوا	قُلُوْبُنَا	فِیْ اَكِنَّةٍ	مِّمَّا	تَدْعُوْنَا	اِلَیْهِ	وَ
وہ سنتے نہیں	اور انہوں نے کہا	ہمارے دل	پر دوں میں	اس سے جو	تم بلاتے ہو ہمیں	اس کی طرف	اور	

سنتے نہیں۔ اور انہوں نے کہا اس (بات) سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پر دوں میں ہیں، اور

فِیْ اٰذَانِنَا وَقَرُّ وَّمِنْ بَیْنِنَا وَبَیْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّا عَمِلُوْنَ ۶

فِیْ	اٰذَانِنَا	وَقَرُّ	وَّمِنْ	بَیْنِنَا	وَ بَیْنِكَ	حِجَابٌ	فَاَعْمَلْ	اِنَّا	عَمِلُوْنَ
ہمارے کانوں میں	بوجھ-گرائی	اور ہمارے درمیان	اور تمہارا درمیان	ایک پردہ	سو تم کام کرو	بیشک ہم	کام کرتے ہیں		

ہمارے کانوں میں گرائی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، سو تم اپنا کام کرو، بیشک ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ اَنْمَّا اِلٰهُكُمْ اِلٰهُ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِیْمُوْا

قُلْ	اِنَّمَا	اَنَا	بَشَرٌ	مِّثْلُكُمْ	یُوْحٰی	اِلَیَّ	اَنْمَّا	اِلٰهُكُمْ	اِلٰهُ	وَاحِدٌ	فَاسْتَقِیْمُوْا
فرمادیں	اے لوگو! میں	ایک بشر	تم جیسا	دیکھا جاتی ہے	میری طرف	یہ کہ	تمہارا معبود	معبود	یکتا	ہیں سیدھے رہو	

آپ فرمادیں، اس کے سوا نہیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف یوحیٰ کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود، معبود یکتا ہے، پس سیدھے رہو

إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

إِلَيْهِ	وَاسْتَغْفِرُوهُ	وَوَيْلٌ	لِلْمُشْرِكِينَ	الَّذِينَ	لَا يُؤْتُونَ	الزَّكَاةَ
اسکی طرف اس کے حضور، اور اس سے مغفرت مانگو، اور خرابی	مشرکوں کے لئے	وہ جو	نہیں دیتے	زکوٰۃ		

اس کے حضور اور اس سے مغفرت مانگو، اور خرابی ہے مشرکوں کے لئے۔ وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ

وَهُمْ	بِالْآخِرَةِ	هُمْ	كَافِرُونَ	إِنَّ	الَّذِينَ	آمَنُوا	وَعَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ	لَهُمْ	أَجْرٌ
اور وہ	آخرت کا	وہ	منکر ہیں	بیشک	جو لوگ	ایمان لائے	اور انہوں نے عمل کئے اچھے	انکے لئے	اجر	

اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے اچھے عمل کئے، ان کے لئے اجر ہے

غَيْرِ مَمْنُونٍ ۚ قُلْ أَيْسَرُ كُفْرًا وَكَفْرًا بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

غَيْرِ	مَمْنُونٍ	قُلْ	أَيْسَرُ	كُفْرًا	وَكَفْرًا	بِالَّذِي	خَلَقَ	الْأَرْضَ	فِي	يَوْمَيْنِ
نغم نہ ہونے والا	فرمادیں	کیا تم	انکار کرتے ہو	اس کا جس نے	پیدا کیا	زمین	دو دنوں میں			

نغم نہ ہونے والا۔ آپ فرمادیں کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا

وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۙ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا

وَتَجْعَلُونَ	لَهُ	أَنْدَادًا	ذَٰلِكَ	رَبُّ	الْعَالَمِينَ	وَجَعَلَ	فِيهَا	رَوَاسِيَ	مِنْ	فَوْقِهَا
اور تم ٹھہراتے ہو	اس کے	شریک (جمع)	یہ	سارے جہانوں کا رب	اور اس نے بنائے	اس میں	پہاڑ (جمع)	اس کے اوپر		

اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یہی ہے سارے جہانوں کا رب۔ اور اس نے اس (زمین) میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے،

وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّابِلِينَ ۝۱۰

وَبَرَكَ	فِيهَا	وَقَدَّرَ	فِيهَا	أَقْوَاتَهَا	فِي	أَرْبَعَةِ	أَيَّامٍ	سَوَاءً	لِّلسَّابِلِينَ
اور برکت رکھی	اس میں	اور مقر کیے	اس میں	انکی خوراکیں	میں	چار دن (جمع)	یکساں	تمام سوال کرنے والوں کے لئے	

اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں چار دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کیے، یکساں تمام سوال کرنے والوں کے لئے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وِلِلْأَرْضِ اجْتَبِي طَوْعًا

ثُمَّ	اسْتَوَىٰ	إِلَى	السَّمَاءِ	وَهِيَ	دُخَانٌ	فَقَالَ	لَهَا	وِلِلْأَرْضِ	اجْتَبِي	طَوْعًا
پھر اس نے توجہ فرمائی	آسمان کی طرف	اور وہ	ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے	اور زمین سے	تم دونوں کو خوشی سے					

پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں کو خوشی سے



اَوْ كَرِهًا قَالْتَا اتَيْنَا طَائِعِينَ ۝۱۱ فَقَضِهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

اَوْ كَرِهًا	قَالْتَا	اَتَيْنَا	طَائِعِينَ	فَقَضِهُنَّ	سَبْعَ سَنَوَاتٍ	فِي يَوْمَيْنِ
یا ناخوشی سے	ان دونوں نے کہا،	ہم دونوں آئے (حاضر ہیں)	خوشی سے	پھر اس نے بنائے	سات آسمان	دو دنوں میں

یا ناخوشی سے ان دونوں نے کہا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے دو دنوں میں سات آسمان بنائے

وَاَوْحٰی فِی كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرًا طَوْنٰی السَّمَاۗءِ الدُّنْیَا بِصَابِیْہِ ۝۱۲

وَاَوْحٰی	فِی	كُلِّ سَمَاءٍ	اَمْرًا	طَوْنٰی	السَّمَاۗءِ	الدُّنْیَا	بِصَابِیْہِ
اور وحی کر دی	میں	ہر آسمان	اس کا کام	اور ہم نے زینت دی	آسمان	دنیا	چراغوں (ستاروں) سے

اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی،

وَحِفْظًا ۝۱۳ ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۝۱۴ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ

وَحِفْظًا	ذٰلِكَ	تَقْدِیْرُ	الْعَزِیْزِ	الْعَلِیْمِ	فَاِنْ	اَعْرَضُوْا	فَقُلْ	اَنْذَرْتُكُمْ
اور حفاظت کے لئے	یہ	اندازہ (فیصلہ)	غالب	علم والا	پھر اگر	وہ منہ موڑ لیں	تو فرمادیں	میں ڈرانا ہوں تمہیں

اور حفاظت کے لئے (یعنی) یہ غالب، علم والے (اللہ کا) فیصلہ ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ فرمادیں میں تمہیں ڈرانا ہوں،

صُعِقَةً مِّثْلَ صُعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدٍ ۝۱۵ اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہِمۡ

صُعِقَةً	مِثْلَ	صُعِقَةِ	عَادٍ	وَثَمُوْدٍ	اِذْ	جَاءَتْهُمْ	الرُّسُلُ	مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہِمۡ
ایک چنگھاڑ	جیسی	چنگھاڑ	عاد اور ثمود		جب آئے	انکے پاس	رسول	ان کے آگے سے

ایک چنگھاڑ سے، جیسی چنگھاڑ سے عاد و ثمود پر عذاب آیا تھا، جب ان کے پاس رسول آئے، ان کے آگے سے

وَمِنْ خَلْفِہِمۡ اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰہَ طَقَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِکَۃً

وَمِنْ	خَلْفِہِمۡ	اِلَّا تَعْبُدُوْا	اِلَّا اللّٰہَ	طَقَالُوْا	لَوْ شَاءَ	رَبُّنَا	لَاَنْزَلَ	مَلٰٓئِکَۃً
اور ان کے پیچھے سے	کہ تم نہ عبادت کرو	سوائے اللہ	انہوں نے جواب دیا	اگر چاہتا	ہمارا رب	تو ضرور اتارتا	فرشتے	

اور ان کے پیچھے سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتارتا

فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِہِ کٰفِرُوْنَ ۝۱۶ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ

فَاِنَّا	بِمَا	اُرْسِلْتُمْ	بِہِ	کٰفِرُوْنَ	فَاَمَّا	عَادٌ	فَاسْتَكْبَرُوْا	فِی الْاَرْضِ
یہیں بیشک	اس کا جو	تم بھیجے گئے ہو	اس کے ساتھ	منکر ہیں	پھر جو	عاد	تو وہ تکبر و غرور کرنے لگے	زمین ملک میں

یہیں تم جس (پیغام) کے ساتھ بھیجے گئے ہو، ہم بیشک اس کے منکر ہیں۔ پھر جو عاد تھے وہ ملک میں غرور کرنے لگے،

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي

بِغَيْرِ الْحَقِّ	وَقَالُوا	مَنْ	أَشَدُّ	مِنَّا	قُوَّةً	أَو	لَمْ	يَرَوْا	أَنَّ	اللَّهَ	الَّذِي
ناحق	اور وہ کہنے لگے	کون	بہت زیادہ	ہم سے	قوت	کیا	وہ نہیں دیکھتے	کہ اللہ	وہ جس نے		

ناحق، اور وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کہ اللہ ہے جس نے

خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَارْسَلْنَا

خَلَقَهُمْ	هُوَ	أَشَدُّ	مِنْهُمْ	قُوَّةً	وَكَانُوا	بِآيَاتِنَا	يَجْحَدُونَ	فَارْسَلْنَا
پیدا کیا انہیں	وہ	بہت زیادہ	ان سے	قوت	اور وہ تھے	ہماری آیتوں کا	انکار کرتے	پس ہم نے بھیجی

انہیں پیدا کیا ہے، وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پس ہم نے بھیجی

عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجَسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ

عَلَيْهِمْ	رِيحًا	صَرْصَرًا	فِي	أَيَّامٍ	نَجَسَاتٍ	لِنُذِيقَهُمْ	عَذَابَ	الْخِزْيِ
ان پر	ہوا	تند و تیز	دنوں میں	نخوست	تاکہ ہم چکھائیں انہیں	عذاب	رسوائی	

ان پر نخوست کے دنوں میں تند و تیز ہوا، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں،

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا

فِي	الْحَيَاةِ	الدُّنْيَا	وَلِعَذَابُ	الْآخِرَةِ	أَخْزَىٰ	وَهُمْ	لَا	يُنصَرُونَ	وَأَمَّا
میں	دنیا کی زندگی	اور البتہ عذاب	آخرت	زیادہ رسوا کرے گا	اور وہ	مدد نہ کئے جائیں گے	اور رہے		

دنیا کی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔ اور رہے

شُودٌ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَيْ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذَتْهُمْ سَعِقَةٌ

شُودٌ	فَهَدَيْنَهُمْ	فَاسْتَحَبُّوا	الْعَيْ	عَلَى	الْهُدَىٰ	فَآخَذَتْهُمْ	سَعِقَةٌ
شود	سو ہم نے راستہ دکھایا انہیں	تو انہوں نے پسند کیا	اندھا رہنا	ہدایت پر	تو انہیں آپکڑا	چنگھاڑ	

شود، سو ہم نے انہیں راستہ دکھایا تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے، پر اندھا رہنا پسند کیا، تو انہیں چنگھاڑ نے آپکڑا

الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ

الْعَذَابِ	الْهُونِ	بِمَا	كَانُوا	يَكْسِبُونَ	وَنَجَّيْنَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	وَ
عذاب	ذلت	اسکی سزا میں جو	وہ کماتے رکھتے تھے،	اور ہم نے بچا لیا	وہ لوگ جو	ایمان لائے	اور	

(یعنی، ذلت کے عذاب نے، اس کی سزا میں جو وہ کماتے رکھتے تھے - اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور

كَانُوا يَتَّقُونَ ۱۸ وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۱۹

كَانُوا يَتَّقُونَ	وَ يَوْمَ	يُحْشَرُ	أَعْدَاءُ اللَّهِ	إِلَى النَّارِ	فَهُمْ	يُوزَعُونَ
وہ پرہیزگاری کرتے تھے	اور جس دن	جمع کئے جائیں گے	اللہ کے دشمن	جہنم کی طرف	تو وہ	گروہ گروہ کئے جائیں گے

وہ پرہیزگاری کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کئے جائیں گے، جائیں گے تو وہ گروہ گروہ (تقسیم) کر دیئے جائیں گے۔

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ

حَتَّىٰ	إِذَا	مَا جَاءُوهَا	شَهِدَ	عَلَيْهِمْ	سَمْعُهُمْ	وَأَبْصَارُهُمْ	وَجُلُودُهُمْ
یہاں تک کہ	جب	وہ آئیے اسکے پاس	گواہی دیں گے	ان پر	ان کے کان	اور ان کی آنکھیں	اور انکی جلدیں (گوشت پوست)

یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان، اور ان کی آنکھیں، اور ان کے گوشت پوست گواہی دیں گے

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۲۰ وَقَالُوا لِمَ جُلِدْنَا بِهِنَّ لَمْ يَكُن لَنَا

بِمَا	كَانُوا يَعْمَلُونَ	وَقَالُوا	لِمَ	جُلِدْنَا	بِهِنَّ	لَمْ يَكُن	لَنَا
اس پر	جو وہ کرتے تھے	اور وہ کہیں گے	اور وہ کہیں گے	اپنی جلدوں (گوشت پوست)	کیوں	تم نے گواہی دی	ہم پر (ہمارے خلاف)

اس پر جو وہ کرتے تھے۔ اور وہ اپنے گوشت پوست سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟

قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ

قَالُوا	أَنْطَقَنَا	اللَّهُ	الَّذِي	أَنْطَقَ	كُلَّ شَيْءٍ	وَهُوَ	خَلَقَكُمْ	أَوَّلَ مَرَّةٍ	وَ
وہ جواب دیں گے	ہمیں گویائی دی	اللہ	وہ جس نے	گویا فرمایا	ہر شے	اور وہ۔ اس	تمہیں پیدا کیا	پہلی بار	اور

وہ جواب دیں گے، ہمیں اس اللہ نے گویائی دی، جس نے ہر شے کو گویا فرمایا ہے اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۲۱ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ

إِلَيْهِ	تُرْجَعُونَ	وَمَا	كُنْتُمْ	تَسْتَرُونَ	أَنْ يَشْهَدَ	عَلَيْكُمْ	سَمْعُكُمْ
اسی کی طرف	تم لوٹائے جاؤ گے	اور جو	تم چھپاتے تھے	کہ گواہی دیں گے	تم پر (تمہارے خلاف)	تمہارے کان	

اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو تم چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان

وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا

وَلَا	أَبْصَارُكُمْ	وَلَا	جُلُودُكُمْ	وَلَكِنْ	ظَنَنْتُمْ	أَنَّ اللَّهَ	لَا يَعْلَمُ	كَثِيرًا	مِمَّا
اور نہ	تمہاری آنکھیں	اور نہ	تمہاری جلدیں (گوشت پوست)	اور لیکن	تبلیکہ	کہ اللہ	بہت کچھ	اس کے	

اور نہ تمہاری آنکھیں، اور نہ تمہارے گوشت پوست، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ اس کے متعلق بہت کچھ نہیں جانتا جو

تَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾ وَذِكْرُكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

تَعْمَلُونَ	وَذِكْرُكُمْ	ظَنُّكُمْ	الَّذِي	ظَنَنْتُمْ	بِرَبِّكُمْ	أَرَدَكُمْ	فَأَصْبَحْتُمْ
تم کرتے ہو	اور اس	تمہارا گمان	وہ جو	تمہنے گمان کیا تھا	اپنے پروردگار کے متعلق	ہلاک کیا تمہیں	سو تم ہو گئے

تم کرتے ہو - تمہارے اس گمان (خیالِ باطل) نے، جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا تمہیں ہلاک کیا، سو تم ہو گئے

مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا

مِنَ	الْخَسِرِينَ	فَإِنْ	يَصْبِرُوا	فَالنَّارُ	مَثْوًى	لَهُمْ	وَإِنْ	يَسْتَعْتَبُوا
سے	خسارہ پانے والے	پھر اگر	وہ صبر کریں	تو جہنم	ٹھکانہ	ان کے لئے	اور اگر	وہ معافی چاہیں

خسارہ پانے والوں میں سے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو جہنم، جہنم ان کے لئے ٹھکانا ہے، اور اگر وہ (اب) معافی چاہیں،

فَمَا هُمْ مِنَ الْمَعْتَبِينَ ﴿۲۴﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا

فَمَا هُمْ	مِنَ	الْمَعْتَبِينَ	وَقَيَّضْنَا	لَهُمْ	قُرَنَاءَ	فَزَيَّنُوا	لَهُمْ	مَا
تو وہ	سے	معافی قبول کئے جانے والے	اور ہم نے مقرر کئے	ان کے لئے	کچھ ہم نشین	تو انہوں نے آراستہ دکھایا ان کے لئے	جو	

تو وہ معافی قبول کئے جانے والوں میں سے نہ ہوں گے۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کئے، تو انہوں نے ان کے لئے آراستہ دکھایا جو

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ

بَيْنَ	أَيْدِيهِمْ	وَمَا	خَلْفَهُمْ	وَحَقَّ	عَلَيْهِمْ	الْقَوْلُ	فِي	أُمَّمٍ	قَدْ	خَلَتْ
ان کے آگے	اور جو ان کے پیچھے	اور پورا ہو گیا	ان پر	حق	ان پر	قول	ان امتوں میں	جو گزر چکیں		

ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے تھا اور ان پر (عذاب کی وعید کا) قول پورا ہو گیا۔ ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں،

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿۲۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

مِنْ	قَبْلِهِمْ	مِنَ	الْجِنَّ	وَالْإِنْسِ	إِنَّهُمْ	كَانُوا	خَسِرِينَ	وَقَالَ	الَّذِينَ
ان سے قبل	جنات میں سے۔ کی	اور انسان	بیشک وہ	خسارہ پانے والے تھے	اور کہا	ان لوگوں نے جو			

ان سے متعلق جنات اور انسانوں کی، بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے - اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے

كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالنَّغْوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۲۶﴾

كَفَرُوا	لَا	تَسْمَعُوا	هَذَا	الْقُرْآنَ	وَالنَّغْوَا	فِيهِ	لَعَلَّكُمْ	تَغْلِبُونَ
انہوں نے کفر کیا	تم مت سنو	اس قرآن کو	اور غل مچاؤ	اس میں	شاید کہ تم	تم غالب آ جاؤ		

کفر کیا کافروں نے، کہ تم اس قرآن کو سنو ہی مت اور اگر دہانے لگیں، تو اس میں غل مچاؤ، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔

فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾

فَلَنذِيقَنَّ	الَّذِينَ كَفَرُوا	عَذَابًا شَدِيدًا	وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ	أَسْوَأَ الَّذِي	كَانُوا يَعْمَلُونَ
پس ہم ضرور دکھائیں گے	ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا (کافر)	سخت عذاب	اور ہم انہیں ضرور بدل دیں گے	بدترین	وہ کرتے تھے (اعمال)

پس ہم کافروں کو ضرور سخت عذاب دکھائیں گے، اور البتہ ہم ان کے بدترین اعمال کا انہیں ضرور بدلہ دیں گے۔

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

ذَلِكَ	جَزَاءُ	أَعْدَاءِ اللَّهِ	النَّارُ	لَهُمْ	فِيهَا	دَارُ الْخُلْدِ	جَزَاءُ	بِمَا	كَانُوا	بِآيَاتِنَا
یہ	بدلہ	اللہ کے دشمن (جمع)	جہنم	انکے لئے	اس میں	ہمیشگی کا گھر	بدلہ	اس کا جو	وہ تھے	ہماری آیتوں کا

یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم، اور ان کے لئے ہے اس میں ہمیشگی کا گھر، اس کا بدلہ جو وہ ہماری آیتوں کا

يَجْحَدُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَ

يَجْحَدُونَ	وَقَالَ	الَّذِينَ كَفَرُوا	رَبَّنَا	أَرِنَا	الَّذِينَ	أَضَلْنَا	مِنَ	الْجِنِّ	وَ
انکار کرتے	اور کہیں گے	وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا (کافر)	اے ہمارے رب	ہمیں دکھا	وہ دونوں	جنہوں نے گمراہ کیا ہے	جنات میں سے	اور	

انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور

الْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۲۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ

الْإِنْسِ	نَجْعَلُهُمَا	تَحْتَ	أَقْدَامِنَا	لِيَكُونَا	مِنَ	الْأَسْفَلِينَ	إِنَّ	الَّذِينَ
انسانوں	ہم ان دونوں کو ڈالیں	تسلے	اپنے پاؤں	تاکہ وہ ہوں	سے	انتہائی ذیل (جمع)	بیشک	وہ جنہوں نے

انسانوں میں سے کہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے (روند) ڈالیں تاکہ وہ انتہائی ذیلیوں میں سے ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے

قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

قَالُوا	رَبَّنَا اللَّهُ	ثُمَّ	اسْتَقَامُوا	تَتَنَزَّلُ	عَلَيْهِمُ	الْمَلَائِكَةُ	أَلَّا	تَخَافُوا	وَلَا	تَحْزَنُوا
انہوں نے کہا	ہمارا رب اللہ	پھر	وہ ثابت قدم ہے	اُترتے ہیں	ان پر	فرشتے	کہ نہ تم خوف کھاؤ	اور نہ غمگین ہو		

کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو،

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۳۰﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ

وَأَبْشِرُوا	بِالْجَنَّةِ	الَّتِي	كُنْتُمْ تُوعَدُونَ	نَحْنُ	أَوْلَىٰ	بِكُمْ	فِي	الْحَيَاةِ
اور تم خوش ہو	جنت پر	وہ جو	تہیں وعدہ دیا جاتا تھا	ہم	تمہارے رفیق		زندگی میں	

اور تم اس جنت پر خوش ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے رفیق تھے زندگی میں

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلكُمْ فِيهَا مَا

الدُّنْيَا	وَفِي الْآخِرَةِ	وَلكُمْ فِيهَا	مَا تَشْتَهِيْ	اَنْفُسُكُمْ	وَلكُمْ فِيهَا	مَا
دنیا	اور آخرت میں	اور تمہارے لئے	اس میں جو چاہیں	تمہارے دل	اور تمہارے لئے	اس میں جو
دینا کی اور آخرت میں (جی، اور تمہارے لئے اس میں (موجود ہے) جو						

تَدْعُوْنَ ۳۱ نَزَلًا مِّنْ غَفْوَرٍ رَّحِيْمٍ ۳۲ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا

تَدْعُوْنَ	نَزَلًا	مِّنْ	غَفْوَرٍ	رَّحِيْمٍ	وَمَنْ	اَحْسَنُ	قَوْلًا	مِّمَّنْ	دَعَا
تم مانگو گے۔	ضیافت	سے	بخشنے والا	مہربان	اور کس	بہترین	قول	اس سے جو	بلائے
تم مانگو گے۔ (یہ، ضیافت ہے بخشنے والے، مہربان اللہ کی طرف سے۔ اور اس سے بہترین کس کا قول؟ جو بلائے									

اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۳۳ وَلَا تَسْتَوِي

اِلَى اللّٰهِ	وَعَمِلَ	صَالِحًا	وَقَالَ	اِنِّىْ	مِنَ	الْمُسْلِمِيْنَ	وَلَا تَسْتَوِي
اللہ کی طرف	اور عمل کرے	اچھے	اور وہ کہے	بیشک میں	سے	مسلمانوں	اور برابر نہیں ہوتی
اللہ کی طرف، اور اچھے عمل کرے اور کہے بیشک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور برابر نہیں ہوتی							

الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ

الْحَسَنَةَ	وَلَا السَّيِّئَةَ	اِدْفَعْ	بِالَّتِيْ	هِيَ	اَحْسَنُ	فَاِذَا	الَّذِيْ	بَيْنَكَ	وَ
نیکی	اور نہ بُرائی	دور کر دیں آپ	اس سے جو وہ	بہترین	تو یکایک	وہ جو شخص	آپ کے درمیان	اور	
نیکی اور بُرائی، آپ (برائے) اس (انداز سے) دور کر دیں جو بہترین ہو تو یکایک وہ شخص کہ آپ کے درمیان اور									

بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَىِّ حَمِيْمٍ ۳۴ وَمَا يُلْقٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

بَيْنَهُ	عَدَاوَةٌ	كَأَنَّهُ	وَىِّ	حَمِيْمٍ	۳۴	وَمَا	يُلْقٰهَا	اِلَّا	الَّذِيْنَ	صَبَرُوْا
اس کے درمیان	عداوت	گو یا کہ وہ	دوست	قزاقی (جگری)		اور نہیں ملتی یہ	مگر	وہ جنہوں نے	صبر کیا	
اس کے درمیان عداوت تھی (ایسے ہو جائے گا) گو یا کہ وہ جگری دوست ہے۔ اور یہ (بات) نہیں ملتی مگر انہیں جنہوں نے صبر کیا										

وَمَا يُلْقٰهَا اِلَّا ذُوْ حِطِّ عَظِيْمٍ ۳۵ وَاِمَّا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ

وَمَا	يُلْقٰهَا	اِلَّا	ذُوْ حِطِّ	عَظِيْمٍ	۳۵	وَاِمَّا	يَنْزِعُكَ	مِنَ	الشَّيْطٰنِ
اور نہیں	ملتی یہ	مگر	بڑے نصیب والے	اور اگر		تہیں (سوسہ آئے)	سے	شیطان	
اور یہ نہیں ملتی مگر بڑے نصیب والے کو۔ اور اگر تہیں شیطان کی طرف سے آئے									

نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۷﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

نَزَعٌ	فَاسْتَعِذْ	بِاللَّهِ	إِنَّهُ	هُوَ	السَّمِيعُ	الْعَلِيمُ	وَمِنْ	آيَاتِهِ	اللَّيْلُ	وَالنَّهَارُ
کوئی دوسرے	تو پناہ چاہیں	اللہ کی	بیشک وہ	دہی	سننے والا	جاننے والا	اور سے	اسکی نشانیوں	رات	اور دن

کوئی دوسرے تو اللہ کی پناہ چاہیں، بیشک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن،

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدَا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدَا لِلَّهِ

وَالشَّمْسُ	وَالْقَمَرُ	لَا تَسْجُدَا	لِلشَّمْسِ	وَلَا	لِلْقَمَرِ	وَاسْجُدَا	لِلَّهِ
اور سورج	اور چاند	تم نہ سجدہ کرو	سورج کو	اور نہ	چاند کو	اور تم سجدہ کرو	اللہ کو

اور سورج اور چاند، تم نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو، اور تم اللہ کو سجدہ کرو،

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۳۸﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا

الَّذِي	خَلَقَهُنَّ	إِن كُنتُمْ	إِيَّاهُ	تَعْبُدُونَ	فَإِنِ	اسْتَكْبَرُوا
وہ جس نے	پیدا کیا انہیں	اگر تم ہو	صرف اس کی	عبادت کرتے	پس اگر وہ	ستکبر کریں

وہ جس نے ان (سب) کو پیدا کیا، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ پس اگر وہ تکبر کریں (تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے)

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿۳۹﴾

فَالَّذِينَ	عِنْدَ رَبِّكَ	يُسَبِّحُونَ	لَهُ	بِاللَّيْلِ	وَالنَّهَارِ	وَهُمْ	لَا يَسْأَمُونَ
سو وہ جو	آپ کے رب کے نزدیک	وہ تسبیح کرتے ہیں	اسکی	رات	اور دن	اور وہ	نہیں اکتاتے

سو وہ (فرشتے) جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اکتانے نہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

وَمِنْ	آيَاتِهِ	أَنَّكَ	تَرَى	الْأَرْضَ	خَاشِعَةً	فَإِذَا	أَنْزَلْنَا	عَلَيْهَا	الْمَاءَ
اور	اسکی نشانیوں میں سے	کہ تو	تو دیکھتا ہے	زمین	دبی ہوئی (سنان)	پھر جب	ہم نے اتارا	اس پر	پانی

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو سنان دیکھتا ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا

اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمَجِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾

اهْتَزَّتْ	وَرَبَّتْ	إِنَّ الَّذِي	أَحْيَاهَا	لَمَجِي	الْمَوْتَى	إِنَّهُ	عَلَىٰ	كُلِّ	شَيْءٍ	قَدِيرٌ
وہ اہلہانے لگتی ہے	اور پھولتی ہے	بیشک وہ	جس نے اس کو زندہ کیا	البتہ زندہ کرنے والا مردوں کو	بیشک وہ	ہر شے پر	قدرت رکھنے والا			

تو وہ اہلہانے لگتی ہے اور پھولتی ہے، بیشک وہ جس نے اس کو زندہ کیا، البتہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بیشک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُجِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا

بیشک	جو لوگ	کج روی کرتے ہیں	ہماری آیتیں	وہ پوشیدہ نہیں	ہم پر	تو کیا جو	ڈالا جائے	آگ میں	بہتر
------	--------	-----------------	-------------	----------------	-------	-----------	-----------	--------	------

بیشک جو لوگ ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں وہ ہم پر ہم سے پوشیدہ نہیں، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے

أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ

یا جو	آئے	امان ساتھ	روز قیامت	تم کرو	جو تم چاہو	بیشک وہ	جو تم کرتے ہو	دیکھنے والا
-------	-----	-----------	-----------	--------	------------	---------	---------------	-------------

یا جو روز قیامت امان کے ساتھ آئے تم جو چاہو کرو، بیشک تم جو کچھ کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۗ لَا يَأْتِيهِ

بیشک	وہ جنہوں نے	انکار کیا	ذکر قرآن کا	جب	وہ آیا ان کے پاس	اور بیشک یہ	البتہ کتاب ہے	گرا می قدر	اسکے پاس نہیں آتا
------	-------------	-----------	-------------	----	------------------	-------------	---------------	------------	-------------------

بیشک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، بیشک یہ گرا می قدر ہے۔ اس کے پاس نہیں آتا

الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۗ

باطل	اس کے سامنے سے	اور نہ	اس کے پیچھے سے	نازل کیا گیا	سے	حکمت والے	سزاوار حمد
------	----------------	--------	----------------	--------------	----	-----------	------------

باطل اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے (قرآن) نازل کیا گیا۔ حکمت والے سزاوار حمد (اللہ کی طرف) سے۔

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَّ قِيلَ لِّلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ

نہیں کہا جاتا	آپ کو	سوائے	جو کہا جا چکا ہے	رسولوں کو	آپ سے قبل	بیشک	آپ کا رب	بڑی مغفرت والا
---------------	-------	-------	------------------	-----------	-----------	------	----------	----------------

آپ کو اس کے سوا نہیں کہا جاتا جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے، بیشک آپ کا رب بڑی مغفرت والا،

وَذُو عَقَابٍ ۗ أَلِيمٌ ۗ وَكَوَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا ۗ لَقَالُوا لَوْلَا فِصَلتُ آيَاتِهِ

اور سزا دینے والا	دردناک	اور اگر ہم بناتے آئے	قرآن کو	عجیب زبان کا،	تو وہ کہتے	کیوں	نہ صاف بیان کی گئیں	اسکی آیتیں
-------------------	--------	----------------------	---------	---------------	------------	------	---------------------	------------

اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ اور اگر ہم قرآن کو عجیب زبان کا بناتے تو وہ کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ صاف صاف بیان کی گئیں؟



ءَ اَعْجَبِيْ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدٰى وَّ شِفَاۗءٌ ط وَالَّذِيْنَ

ءَ اَعْجَبِيْ	وَعَرَبِيٌّ	قُلْ	هُوَ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	هُدٰى	وَّ شِفَاۗءٌ	ط	وَالَّذِيْنَ
کیا عجبی دکتب،	اور عربی (رسول)،	فرمادیں	وہ۔ یہ	ان لوگوں کے لئے جو	ایمان لائے	ہدایت	اور شفاء		اور جو لوگ

کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ آپ فرمادیں جو ایمان لائے یہ ان لوگوں کے لئے ہدایت اور شفاء ہے، اور جو لوگ

لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اِذْنِهِمْ وَقُرْهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَسٰى ط اُوْلٰٓئِكَ يٰنَادُوْنَ

لَا يُؤْمِنُوْنَ	فِيْ اِذْنِهِمْ	وَقُرْهُ	وَهُوَ	عَلَيْهِمْ	عَسٰى	ط	اُوْلٰٓئِكَ	يٰنَادُوْنَ
ایمان نہیں لائے	ان کے کانوں میں	گمراہی	اور وہ۔ یہ	ان پر	اندھاپن		یہ لوگ	پکارے جاتے ہیں

ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں گمراہی ہے اور یہ ان کے لئے اندھاپن ہے، (گویا) یہ لوگ پکارے جاتے ہیں

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝۳۳ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ ط وَ كُو

مِنْ	مَّكَانٍ	بَعِيْدٍ	۝۳۳	وَ لَقَدْ	اٰتَيْنَا	مُوسٰى	الْكِتٰبَ	فَاخْتَلَفَ	فِيْهِ	ط	وَ كُو
سے	کسی جگہ	دُور		اور تحقیق	ہم نے دی	موسیٰ	کتاب	تواختلاف کیا گیا	اس میں		اور اگر

کسی دُور جگہ سے۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر

لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقَضٰى بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ

لَا كَلِمَةٌ	سَبَقَتْ	مِنْ	رَّبِّكَ	لَقَضٰى	بَيْنَهُمْ	ط	وَاِنَّهُمْ	لَفِيْ	شَكٍّ	مِّنْهُ
نہ ہوتی	ایک بات	پہلے	پہلے	آپ کے رب کی طرف سے	توفیق دیا ہو چکا ہوتا		ان کے درمیان	اور بیشک وہ	ضرورت میں	اس سے

آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ پھہر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بیشک وہ ضرور اس سے

مُرِيْبٍ ۝۳۵ مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسٰءَ فَعَلَيْهَا ط

مُرِيْبٍ	۝۳۵	مَنْ	عَمِلَ	صٰلِحًا	فَلِنَفْسِهٖ	وَمَنْ	اَسٰءَ	فَعَلَيْهَا	ط
ترددیں ڈالنے والے	شک میں	جو۔ جس	عمل کئے	اچھے	تو اپنی ذات کے لئے	اور جس	بُرائی کی	تو اس پر (اس کا وبال)	

تردد میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جس نے اچھے عمل کئے تو اپنی ذات کے لئے رکھے، اور جس نے بُرائی کی اس کا وبال اسی پر ہوگا،

وَمَا رَّبُّكَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝۳۶

وَمَا	رَّبُّكَ	بِظَلّٰمٍ	لِّلْعَبِيْدِ	۝۳۶
اور نہیں	آپ کا رب	مطلق ظلم کرنے والا	اپنے بندوں پر	

اور آپ کا رب اپنے بندوں پر مطلق ظلم کرنے والا نہیں۔

کتاب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے

۵  
۶  
۱۹